

پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی


جھوٹ کی سنگینی

اور

اُس کی اقسام

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

PDFBOOKSFREE.PK



جھوٹ کی سنگینی

اور

اس کی اقسام

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں



اشاعت اول _____ جنوری 2007
تعداد _____ 1000
اہتمام _____ قذوسیہ اسلامک پریس
قیمت _____ 160/- روپے

پاکستان میں شائع

مکتبہ قدوسیہ
سازگار بازار
لاہور

رحمان مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

Tel # +92 42 735 1124 , +92 42 723 0585
E-mail: qadusia@brain.net.pk

فہرست موضوعات

پیش لفظ

- ۲۷ تمہید ❀
- ۲۸ کتاب کی تیاری میں پیش نظر باتیں ❀
- ۲۹ خاکہ کتاب ❀
- ۲۹ شکر و دعا ❀

منہج اول

جھوٹ کی سنگینی

- ۳۱ تمہید ۱

جھوٹ کا زمانہ جاہلیت میں معیوب سمجھا جانا

- ۳۳ قبل از اسلام ابو سفیان کا قول ❀
- ۳۳ شرح قول میں پانچ علمائے اُمت کی تحریریں ❀

2

جھوٹ کا ایمان کے منافی ہونا

- ۳۷ ارشادِ تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ﴾ الآية ❀
- ۳۸ تفسیر آیت میں علامہ قاسمی کا قول



- ۳۷ آیت سے حاصل شدہ ہدایت کے متعلق شیخ الجزائری کا بیان
- ۳۸ دلالت آیت کے متعلق حافظ ابن جوزی اور علامہ رازی کے اقوال
- ۳۸ ب: حدیث شریف: كُلُّ خُلَّةٍ يُطْعَمُ الحدیث
- حدیث میں بیان کردہ بات کی حکمت:
- ۳۸ علامہ طیبی کا قول
- ۳۹ ملا علی قاری کا قول
- ۳۹ ج: قول صدیق رضی اللہ عنہ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي أَكُمُ الخ
- ۴۰ د: قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ: عَلَى كُلِّ يُطْوَى الخ
- ۴۰ ہ: قول شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ: كُلُّ خُلَّةٍ يُطْوَى الخ

3

جھوٹ اور شرک کا باہمی تعلق

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

- ۴۱ ا: ارشاد باری تعالیٰ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ الآية﴾

زور کا معنی:

- ۴۱ علامہ قرطبی کا قول
- ۴۱ تفسیر آیت میں شیخ شہنشاہی اور حافظ ابن کثیر کے اقوال
- ۴۱ ب: ارشاد نبوی ﷺ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ الحدیث
- حدیث کے حوالے سے چار باتیں:
- ۴۳ ۱- [أَلَا أُنَبِّئُكُمْ] کو تین مرتبہ دہرانا
- ۴۳ ۲- ٹیک چھوڑ کر بیٹھنا
- ۴۳ ۳- جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے قبل [أَلَا] فرمانا
- ۴۳ ۴- [خبردار! جھوٹی بات] کو متعدد مرتبہ دہرانا



- ج: ارشادِ نبوی ﷺ: الْأَشْرَاكُ بِاللَّهِ الحدیث ۴۴
 حدیث شریف پر امام ترمذی کا تحریر کردہ عنوان ۴۴

4

جھوٹ کا منافقوں کی خصلتوں میں سے ہونا

- ✽ ارشادِ نبوی ﷺ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ الحدیث ۴۴
 الفاظِ حدیث کی شرح میں ملا علی قاری کا قول ۴۵
 ان تین خصلتوں کی تخصیص کی حکمت:
 علامہ غزالی کا قول ۴۵
 علامہ طیبی کا قول ۴۶
 معنی حدیث میں امام نووی کا قول ۴۶
 جھوٹ نفاق کی اساس:
 حضرت حسن بصری کا قول ۴۶

5

جھوٹ کا باعث قلق و اضطراب ہونا

- ✽ ارشادِ نبوی ﷺ: الْكُذْبُ رِيَّةٌ الحدیث ۴۷
 [رِيَّةٌ] کا معنی:
 ملا علی قاری کا قول ۴۸

6

جھوٹ کا راہِ ہدایت میں رکاوٹ ہونا

- ✽ ارشادِ باری تعالیٰ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ الآية ۴۸
 تفسیر آیت میں تین مفسرین کے اقوال ۴۸

7

جھوٹ اور اس کے مطابق عمل قبولیتِ روزہ میں رکاوٹ

- ۴۹ ارشادِ نبوی ﷺ: مَنْ لَمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّوْرِ الحدیث
- ۵۰ شرح حدیث میں علامہ ابن منیر کا قول
- ۵۰ حکمت حدیث کے متعلق قاضی عیاض کا قول
- ۵۱ دلالتِ حدیث کے متعلق علامہ طیبی کا قول

8

جھوٹ کا تاجروں کو فاجر بنانے والی چیزوں میں سے ہونا

- ۵۱ ارشادِ نبوی ﷺ: إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ الحدیث
- تج کا تاجروں کو فاجروں کے زمرہ سے نکالنا:
- ۵۲ ارشادِ نبوی ﷺ: يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! الحدیث
- ۵۳ شرح حدیث میں علامہ طیبی کا قول

9

جھوٹ کا گناہوں اور جہنم کی طرف لے جانا

- ۵۴ ارشادِ نبوی ﷺ: إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي الحدیث
- ۵۶ شرح حدیث میں تین محدثین کے اقوال
- ۵۷ ب: ارشادِ نبوی ﷺ: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ الحدیث
- ۵۸ ج: ایک شخص کا استفسار: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ الحدیث
- ۵۹ د: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا قول: يَا أَيُّكُمْ وَالْكَذِبُ الحدیث

10

کذاب کے لیے شدید اور طویل عذاب

۶۰ ارشاد نبوی ﷺ: رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي الحديث
حدیث شریف پر تعلق:

۶۱ علامہ ابن بطال کا قول

۶۲ امام ابن ابی جمرہ کا قول

11

رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ کا جھوٹ کے متعلق موقف

تین روایات:

۶۳ ا: امام ابن حبان کی روایت

۶۳ ب: امام حاکم کی روایت

۶۳ ج: امام احمد کی روایت

۶۳ ان روایات سے معلوم ہونے والی باتیں

12

جھوٹ کا خالی از خیر ہونا

۶۵ قول فاروق رضی اللہ عنہ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ الصِّدْقِ الخ

۶۵ شعبہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نقل کردہ شعر: أَنْتَ الْفَتَى الخ

مبحث دوئم

جھوٹ چھوڑنے کا عظیم الشان صلہ

۶۷ حدیث کعب بن مالک رضی اللہ عنہ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
.....

حدیث سے معلوم ہونے والی باتیں:

- ۷۸ ۱: جھوٹ ترک کرنے والوں کا صلہ
- ۷۹ ۲: جھوٹ بولنے والوں کے لیے دنیوی و اُخروی سزائیں
- ۸۱ ۳: دونوں قسم کے لوگوں کے بدلے میں باہمی تقابل
- ۸۲ حافظ ابن حجر کا قول

مبحث سوئم
جھوٹ کی اقسام

۸۳ تمہید

1

اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا

۱: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی قباحت:

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree

- ۱- سب سے بڑا ظلم:
- ۸۴ ارشادِ تعالیٰ: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ...﴾ الایة
- ۸۴ تفسیر آیت میں قاضی ابوسعود اور شیخ قاسمی کا بیان
- ۲- غیر مومنوں کا شیوہ:
- ۸۵ ارشادِ تعالیٰ: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ...﴾ الایة
- ۸۵ تفسیر آیت میں علامہ زحشری اور حافظ ابن کثیر کا بیان
- ۳- سنگین ترین گناہ:
- ۸۶ ارشادِ تعالیٰ: ﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ...﴾ الایة
- ۸۶ تفسیر آیت میں قاضی ابوسعود کا بیان
- ب: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بُرا انجام:

۱۔ فلاح سے محرومی:

۸۷ ارشادِ تعالیٰ: ﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ﴾ الآية ۸۷

۸۷ تفسیر آیت میں قاضی ابوسعود اور علامہ شوکانی کے اقوال ۸۷

۲۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت:

۸۷ ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى﴾ الآية ۸۷

۸۸ تفسیر آیت میں شیخ سعدی کا قول ۸۸

۳۔ روسیاء اور جہنم میں داخلہ:

۸۸ ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى﴾ الآية ۸۸

۸۸ تفسیر آیت میں شیخ سعدی کا قول ۸۸

ج: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی شکلیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ پر کسی کو اپنا بیٹا بنانے کا افتراء:

۹۰ ا: ارشادِ تعالیٰ: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ الآية ۹۰

۹۰ تفسیر آیات میں شیخ سعدی کا قول ۹۰

ب: ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ الآية ۹۲

۹۲ تفسیر آیات میں شیخ سعدی اور شیخ قاسمی کے اقوال ۹۲

ج: ارشادِ نبوی ﷺ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الحدیث ۹۳

۲۔ خود ستائی کی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت:

۹۵ ارشادِ تعالیٰ: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ﴾ الآية ۹۵

۹۶ تفسیر آیات میں شیخ محمد رشید رضا اور شیخ سعدی کے اقوال ۹۶

۳۔ اپنی طرف سے حلت و حرمت:

۹۷ ا: ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ الآية ۹۷

- ۹۷ تفسیر آیت میں قاضی ابوسعود کا قول
اسی قسم کے جھوٹ کی بعض شکلیں:
دین میں بدعت کا اجراء:
- ۹۸ حافظ ابن کثیر کا بیان
کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دینا:
- ۹۸ امام ابونضرہ کا قول
- ۹۸ اجتہادی مسائل کے متعلق حلت و حرمت کا حکم لگانا
- ۹۹ ب: ارشادِ تعالیٰ: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي...﴾ الایة.....
- ۹۹ امام ابن القیم کی آیت کریمہ پر تعلق

2

پاکستان Virtual Library
نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنا

۱: نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی حرمت کے دلائل:
۱: مخلوق کے متعلق سنگین ترین جھوٹ:

- ۱۰۱ ارشادِ نبوی ﷺ: إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ الحدیث
- ۱۰۲ شرح حدیث میں علامہ قرطبی کا قول
اس جھوٹ کے متعلق سختی کی حکمت:
- ۱۰۲ حافظ ابن حجر کا بیان
۲: بدترین جھوٹوں میں سے ایک:
- ۱۰۳ ارشادِ نبوی ﷺ: مِنْ أَفْرَى الْفِرَى الحدیث
- ۱۰۳ شرح حدیث میں حافظ ابن حجر کا بیان

۳: خوشبوئے جنت سے محرومی:

۱۰۴ الحدیث الحدیث عَلِيٍّ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ ارشادِ نبوی ﷺ:

۱۰۴ شرح حدیث میں علامہ ڈیانوی کا بیان

۴: جہنم میں داخلہ:

۱۰۵ الحدیث الحدیث عَلِيٍّ لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ ارشادِ نبوی ﷺ:

۱۰۵ تین محدثین کے حدیث پر تحریر کردہ عنادین

۱۰۶ ب: ارشادِ نبوی ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا الحدیث

۱۰۶ شرح حدیث میں علامہ قرطبی کا قول

۱۰۷ امام ابن حبان کا حدیث پر تحریر کردہ عنوان

۱۰۷ اس حدیث کے متعلق تین علمائے اُمت کے اقوال

ب: ایک حدیث میں عمداً جھوٹ بولنے والے کا حکم:

۱۰۸ امام نووی کا قول

ج: ترغیب و ترہیب کی خاطر جھوٹی حدیث بنانا:

اس بارے میں دو دلائل:

۱: دین کی تائید میں جھوٹ بولنا منع نہیں

۲: صرف لوگوں کو گم راہ کرنے کی خاطر جھوٹی حدیث کا حرام ہونا

ان دلائل کی حقیقت:

۱: نبی کریم ﷺ پر ہر قسم کے جھوٹ کی ممانعت:

۱۰۹ حافظ ابن حجر کا شرح حدیث میں بیان

۱۱۰ امام نووی کا قول

۲: اضافہ حدیث [تا کہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو گم راہ کرے]

کا عدم ثبوت:

۱۱۲ تین محدثین کے اقوال

تنبیہ:

۳: زائد الفاظ کا مقصود:

۱۱۳ دیگر پانچ احادیث کے متعلق حافظ ابن جوزی کا بیان

۱: ان کا تاکید کے لیے ہونا:

۱۱۴ علامہ قرطبی کا قول

ب: ان کا انجام کے بیان کی خاطر ہونا:

۱۱۴ امام نووی کا قول

ج: ان کے ساتھ چھوٹ کی بعض صورتوں کا بیان:

۱۱۵ حافظ ابن حجر کا قول

۱۱۶ اس بارے میں علامہ غزالی کا بیان

د: چھوٹی حدیث روایت کرنے کا حکم:

۱۱۷ ارشاد نبوی ﷺ: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي الحدیث

۱۱۷ علامہ قرطبی کا قول

۱۱۸ امام نووی کا قول

ثابت شدہ روایات کے بیان پر اکتفا:

۱۱۹ امام مسلم کا قول

موضوع روایات کے بیان کرنے کی حرمت:

۱۱۹ امام نووی کا قول

۵: آنحضرت ﷺ پر جھوٹ کے خدشہ کی بنا پر قلت روایت:

- ۱۱۹ ۱: الزبیر رضی اللہ عنہ
- ۱۲۰ ۲: ابن مسعود رضی اللہ عنہ
- ۱۲۱ ۳: انس رضی اللہ عنہ
- ۱۲۲ و: الفاظ حدیث میں اشتباہ کی صورت میں [أَوْ كَمَا قَالَ] کہنا
- ز: قیاس سے ثابت حکم کی آنحضرت ﷺ کی طرف نسبت:
- ۱۲۲ علامہ قرطبی کا قول
- ح: قاری حدیث کے لیے عربی زبان اور اسمائے رجال سے آگاہی:
- ۱۲۳ امام نووی کا قول

3

جھوٹا خواب بیان کرنا

- ۱۲۳ علامہ غزالی کا قول
- ۱: بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ:
- ۱۲۳ ارشادِ نبوی ﷺ: مِنْ أَفْرَى الْفِرَى الحدیث
- ۲: دائمی عذاب کا مستحق ہونا:
- ۱۲۳ ارشادِ نبوی ﷺ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ الحدیث
- ۱۲۳ شرح حدیث میں علامہ ابن ابی جرہ کا قول
- تنبیہات:
- ۱- جھوٹے خواب اور اس کے عذاب میں باہمی مناسبت:
- ۱۲۵ علامہ ابن ابی جرہ کا اٹھایا ہوا سوال اور اس کا جواب
- ۱۲۵ ۲- شدید وعید کی حکمت

- ۱۲۵ ا: اس کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہونا
- ۱۲۶ ب: اس کے ذریعہ خالق ہونے کا دعویٰ
- ۱۲۶ ج: نبوت پر جھوٹ

4

اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا

ا: اس گناہ کی سنگینی:

۱: عظیم گناہوں میں سے ایک:

- ۱۲۸ الحدیث ارشاد نبوی ﷺ: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيِ الحدیث
- ۲: باپ کی طرف نسبت نہ کرنے والے پر حکم کفر:
- ۱۲۸ الحدیث ارشاد نبوی ﷺ: لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ الحدیث
- ۱۲۹ الحدیث ب: ارشاد نبوی ﷺ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَىٰ إِلَىٰ الحدیث
- اس عمل کو کفر کہنے کا سبب

۳: لعنت کا مستحق ہونا:

۴: اعمال کا قبول نہ ہونا:

- ۱۲۹ الحدیث ارشاد نبوی ﷺ: مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ الحدیث
- ۱۳۰ شرح حدیث میں امام نووی کا قول
- ۵: جنت کا اس پر حرام ہونا:

- ۱۳۱ الحدیث ارشاد نبوی ﷺ: مَنْ ادَّعَىٰ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ الحدیث
- ب: اس جھوٹ کی بعض شکلیں:

- ۱۳۲ ا: اپنے خاندان کے سوا کسی اور خاندان کی طرف نسبت کرنا
- ۲: کسی دوسرے شخص کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا:

- ۱۳۲ الایتین ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾
 ۱۳۳ تفسیر میں شیخ سعدی کا بیان

5

بلادے پالینے کا اظہار کرنا

ا: نبی کریم ﷺ کا اس سے روکنا:

- ۱۳۳ الحدیث ارشادِ نبوی ﷺ: اَلْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ الحدیث
 ۱۳۶ شرح حدیث میں چھ علمائے اُمت کے اقوال
 حدیث میں صیغہ متنیہ استعمال کرنے کی حکمت:

۱۳۶ اس بارے میں تین علماء کے اقوال

ب: اس جھوٹ کی بعض موجودہ شکلیں:

- ۱۳۷ حصول ملازمت کے لیے جھوٹے دعوے
 ۱۳۸ ۲: نیم خواندہ لوگوں کا مخصوص پیشوں کے اہل علم کا لباس پہننا
 ۱۳۸ ۳: بعض اہل علم کا اپنی حیثیت سے بڑے القاب کو اپنے لیے رواج دینا
 ۳: بعض لوگوں کا ماتحت افراد کے علمی کاموں کو اپنی طرف منسوب
 ۱۳۸ کردانا

6

تہمت لگانا

ا: تہمت کی سنگینی:

ا: سب سے جھوٹی بات:

- ۱۳۹ الحدیث ارشادِ نبوی ﷺ: اِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ الحدیث
 ۱۳۹ شرح حدیث میں علامہ قرطبی اور حافظ ابن حجر کے اقوال

۲: آنحضرت ﷺ کا صحابہ سے اجتنابِ تہمت کا عہد لینا:

۱۳۱ قولِ عبادہ رضی اللہ عنہ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الحدیث

۱۳۱ شیخ البانی کا حدیث پر قائم کردہ عنوان

ب: تہمت کی بعض شکلیں:

۱: بے گناہ کو مورد الزام ٹھہرانا:

۱۳۱ روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ: شَكِيَ أَهْلَ الْكُوفَةِ سَعْدًا الخ

۱۳۳ اس کے متعلق بعض دیگر روایات

۲: پاک دامن عورتوں پر بہتان:

۱: ایک مہلک گناہ:

۱۳۴ ارشادِ نبوی ﷺ: اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الحدیث

۱۳۵ شرح حدیث میں علامہ عینی کا قول

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.com

۱۳۵ ارشادِ باری تعالیٰ: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْسَنَاتِ﴾

آیت کریمہ میں موجود تین سزائیں:

۱: اسی درجے:

۱۳۵ قاضی ابوسعود کا بیان

۲: تمام معاملات میں تازندگی شہادت مسترد:

۱۳۶ قاضی ابوسعود کا قول

۱۳۶ شیخ قاسمی کا قول

۳: [فاسق] کا لقب:

۱۳۶ قاضی ابوسعود کا بیان

ج: مسلسل لعنت کا پانا:

۱۳۶ ارشادِ تعالیٰ: ﴿لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.....﴾ الآية

۱۳۷ شیخ سعدی کا بیان

تنبیہ:

۱۳۷ پاک دامن عورتوں اور مردوں پر بہتان کی سزا ایک جیسا ہونا.....

۳: اپنا گناہ بے گناہ کے سر تھوپ دینا:

۱۳۸ ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً.....﴾ الآية

۱۳۸ تفسیر آیت میں شیخ سعدی کا بیان

۱۳۸ ہدایت آیت کے متعلق شیخ الجوزری کا بیان

7

جھوٹی گواہی دینا

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbookfree.pk

: کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ:

۱۳۹ ارشادِ نبوی ﷺ: أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟..... الحدیث

۱۵۰ ایسا ہونے کی حکمت کے متعلق علامہ قرطبی کا بیان

۱۵۰ اس کی سنگینی بیان کرنے میں آنحضرت ﷺ کا اہتمام

۱۵۱ اس اہتمام کی حکمت کے متعلق علامہ ابن دقیق العید کا بیان

ب: عباد الرحمن کے اوصاف کے منافی:

۱۵۱ ارشادِ تعالیٰ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ.....﴾ الآية

۱۵۱ تفسیر آیت میں قاضی ابوسعود کا بیان

۱۵۱ صحیح البخاری کے ایک باب کا عنوان

۱۵۲ شرح عنوان میں حافظ ابن حجر کا قول

مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

ا: اس گناہ کی سنگینی:

۱۵۲ الحلاية ارشادِ تعالیٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ آيَةَ شَرِيفَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَفْعَلُونَ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾
آیت شریفہ میں موجود پانچ سزائیں:

۱۵۳ ا: آخرت میں کوئی حصہ نہ ہونا

۱۵۳ ۲: اللہ تعالیٰ کا ان سے گفتگو نہ فرمانا

۱۵۴ ۳: اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف نہ دیکھنا

۱۵۴ ۴: اللہ تعالیٰ کا انہیں پاک نہ فرمانا

۱۵۴ ۵: ان کے لیے عذاب الیم کا ہونا

ب: مال کی خاطر جھوٹی قسم کی دو شکلیں:

۱: مال مسلم ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا:

ا: بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک:

ایک بدو کا سوال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْكَبَائِرُ؟

۱۵۵ الحدیث

۱۵۶ اسی کے متعلق ایک اور روایت

ب: نبی ﷺ کی ایسے شخص کے لیے بددعا:

۱۵۷ الحدیث ارشادِ نبوی ﷺ: وَمَنْ اقْتَطَعَ مَالَ

ج: جھوٹی قسم کا مال کو ختم کرنا:

۱۵۷ الحدیث ارشادِ نبوی ﷺ: أَلَيْمٌ الْفَاجِرَةُ

د: جھوٹی قسم کا گھروں کو اجاڑ دینا:

- ۱۵۸ ارشادِ نبوی ﷺ: وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ الحدیث
- ۱۵۸ : روزِ قیامت تک دل میں نقطہ کا سبب ہونا:
- ۱۵۸ ارشادِ نبوی ﷺ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الحدیث
- ۱۵۹ حدیث شریف کے حوالے سے تین باتیں
و: دوزخ میں داخلہ اور جنت سے محرومی:
- ۱۶۰ ارشادِ نبوی ﷺ: مَنْ اقْتَطَعَ حَقًّا الحدیث
- ۱۶۱ شرح حدیث میں امام نووی اور علامہ ابی کے اقوال
- ۱۶۲ دو تشبیہات
- ز: روزِ قیامت کو پانچ قسموں کا عذاب:
- ۱۶۳ ارشادِ نبوی ﷺ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ الحدیث
- ۱۶۳ ارشادِ باری تعالیٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ﴾ الایة
- ح: کسی کے مال پر ناحق دعویٰ کا عبرتناک انجام: PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk
- ۱۶۴ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا اروی کے متعلق بیان کردہ قصہ
۲: سودا فروخت کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا:
- ۱۶۶ ارشادِ نبوی ﷺ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الحدیث
- ۱۶۷ حدیث پر دو محدثین کے تحریر کردہ عناوین
- ۱۶۸ حدیث کے متعلق دو باتیں
جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی تین شکلیں:
۱: قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانا:
- ۱۶۹ ارشادِ نبوی ﷺ: ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ الحدیث
- ۱۷۰ شرح حدیث میں علامہ قرطبی کا بیان

ب: سودے کی پیش کردہ قیمت کے متعلق جھوٹی قسم:

۱۷۱ حدیث ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ

۱۷۱ امام بخاری کا حدیث پر تحریر کردہ عنوان

۱۷۱ ایک اشکال کے متعلق وضاحت

ج: مخصوص قیمت پر سودا فروخت نہ کرنے کی جھوٹی قسم:

۱۷۲ حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ

۱۷۳ امام ابن حبان کا حدیث پر تحریر کردہ عنوان

9

تجارت میں جھوٹ

ا: جھوٹ سے برکت کا خاتمہ:

۱۷۴ الحدیث ارشاد نبوی ﷺ: **الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ**

۱۷۴ شرح حدیث میں علامہ قرطبی اور علامہ عینی کے اقوال

۱۷۵ تین محدثین کے حدیث پر تحریر کردہ عناوین

تنبیہات:

۱۷۶ ا: حدیث شریف پر عمل کرنے والے کا ہی برکت پانا

۱۷۷ ۲: بیچ کا دو جہاں کی خیر کے اسباب میں سے ہونا

۱۷۸ ۳: جھوٹ کا دارین میں بدبختی کا سبب ہونا

۱۷۹ جھوٹ سے دُوری ابن عوف رضی اللہ عنہ کی امیری کا ایک سبب

ب: تاجروں کو فجار بنانے کا ایک سبب جھوٹ:



10

مزاحیہ طور پر جھوٹ بولنا

ا: جھوٹ کا سنجیدگی اور مذاق میں نادرست ہونا:

۱۸۰ الخ قول ابن مسعود رضی اللہ عنہ: لَا يَصْلُحُ الْكُذْبُ

۱۸۰ امام بخاری کا اس پر قائم کردہ عنوان

ب: مزاحاً جھوٹ ترک کیے بغیر ایمان کا نامکمل رہنا:

۱۸۰ الحدیث ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ

ج: مزاحاً ترکِ جھوٹ پر وسطِ جنت میں گھر کی ضمانت:

۱۸۱ الحدیث ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتِ

تنبیہ:

۱۸۲ سچی مزاحیہ بات کی اجازت

۱۸۲ سیرتِ طیبہ سے اس کے متعلق تین شواہد

11

لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا

۱۸۵ الحدیث ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: وَيَلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ

۱۸۶ لفظ [وَيْلٌ] کے تکرار کی حکمت

12

ازراہِ تکلف جھوٹ بولنا

۱۸۷ الحدیث ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: لَا تَجْمَعَنَّ جُوعًا وَكَذِبًا

۱۸۷ شرحِ حدیث میں علامہ طیبی اور ملا علی قاری کے اقوال



13

مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا

ا: نبی ﷺ کا اس سے منع فرمانا:

۱۸۸ ارشادِ نبوی ﷺ: أَمَا إِنَّكَ لَوَلَّمْتَ تَفْعَلِي

۱۸۸ شرح حدیث میں علامہ سندھی کا قول

ب: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس سے روکنا:

۱۸۹ وَلَا يَعِدُ الرَّجُلُ صَبِيًّا الخ

14

ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا

ا: نبی ﷺ کا اس سے منع فرمانا:

۱۹۰ ارشادِ نبوی ﷺ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا الحدیث

۱۹۰ شرح حدیث میں دو محدثین کے اقوال

ب: سلف صالحین کا اس سے روکنا:

۱۹۱ ۱: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول

۱۹۱ ۲: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول

۱۹۱ ۳: امام مالک کا قول

۱۹۱ ۴: امام عبدالرحمن بن مہدی کا قول

۱۹۱ مذکورہ بالا حدیث اور آثار پر امام نووی کا تحریر کردہ عنوان

۱۹۲ مذکورہ بالا حدیث اور آثار پر امام نووی کی تعلیق

مباحث چہارم

جھوٹ بولنے کی اجازت کے مواقع

۱: اس کے متعلق تین احادیث:

۱: ارشادِ نبوی ﷺ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الحدیث ۱۹۳

۱۹۳ امام بخاری کا حدیث پر تحریر کردہ عنوان

۲: ارشادِ نبوی ﷺ: لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا الحدیث ۱۹۴

۳: حدیث ام کلثوم رضی اللہ عنہا: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ الحدیث ۱۹۴

ب: جائز جھوٹ کے بارے میں تنبیہات:

۱: ان حالات میں جائز جھوٹ سے مراد:

۱۹۵ علامہ خطابی کا قول

۱۹۵ علامہ ابن الملک کا قول

۲: ان حالات میں جھوٹ کا استعمال بوقتِ مجبوری:

۱۹۶ علامہ غزالی کا قول

۱۹۶ علامہ قرطبی کا قول

۳: کیا جھوٹ سے مراد تعریض اور توریہ ہے؟:

۱۹۶ پہلی رائے: تین حالتوں میں جھوٹ کی مطلقاً اجازت

۱۹۷ دوسری رائے: ان حالتوں میں جھوٹ سے مراد تعریض کا ہونا

۱۹۷ امام طبری کا موقف

۱۹۸ علامہ مہلب کا نقطہ نظر

۱۹۹ سفر ہجرت میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا طرزِ عمل



- ۲۰۰ امام نووی کی رائے
- ۲۰۰ حافظ ابن حجر کا موقف
- ۲۰۱ شیخ البانی کا نقطہ نظر
- ۴: زوجین کے درمیان جواز جھوٹ سے مراد دھوکہ بازی نہیں:
- ۲۰۱ امام نووی کا قول
- ۲۰۱ حافظ ابن حجر کا قول
- ۲۰۲ شیخ البانی کا قول
- ۵: حالت اضطراری میں جھوٹ کے جواز پر اتفاق:
- ۲۰۲ قاضی عیاض کا قول
- ۲۰۲ حافظ ابن حجر کا قول

حرفِ آخر

- ۲۰۳ نتائج بحث ❁
- ۲۰۷ اپیل ❁
- ۲۱۹-۲۰۹ فہرست مراجع و مصادر



پیش لفظ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ. وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَ
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ •

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ •

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ •

اما بعد! گناہوں میں سے کچھ گناہ کبیرہ ہیں، پھر کبیرہ گناہوں میں سے بعض گناہ
بہت ہی سنگین ہیں۔ معاشرہ میں ان کے رواج کی بنا پر لوگ شدید اذیت اور مشکلات
سے دوچار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی گناہوں میں سے ایک بدترین گناہ جھوٹ ہے۔ لیکن
حیرت انگیز بات یہ ہے، کہ بہت سے لوگ دوسرے کے ہاتھوں جھوٹ کی وجہ سے
پریشان ہونے کے باوجود، خود جھوٹ بولنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے۔

• سورة النساء/ الآية الأولى.

• سورة آل عمران/ الآية ۱۰۲.

• سورة الأحزاب/ الآيات ۷۰-۷۱.



خرابی صرف یہیں تک نہیں، بلکہ بہت سے دوسرے لوگوں کے جھوٹ پر رنجیدہ ہونے والے، اپنے لیے دروغ گوئی کو عقل و دانش کی علامت سمجھتے ہیں۔ کذب بیانی سے بزم خود دوسروں کو بیوقوف بنانے کا تذکرہ اپنے لیے باعث افتخار گردانتے ہیں۔

جھوٹ سے خود اپنے آپ کو، اہل و عیال، بہن بھائیوں اور تمام انسانیت کو بچانے کی غرض سے میں نے اس کتاب میں اس کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں درج ذیل چار عنوانوں کے تحت ترتیب دینے کا توفیق الہی سے عزم کیا ہے:

۱: جھوٹ کی سنگینی

۲: جھوٹ چھوڑنے کا عظیم الشان صلہ

۳: جھوٹ کی اقسام

۴: جھوٹ بولنے کی اجازت کے مواقع

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

کتاب کی تیاری میں پیش نظر باتیں

اس سلسلے میں توفیق الہی سے درج ذیل باتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی ہے:

۱: کتاب کے لیے بنیادی معلومات قرآن و سنت سے حاصل کی گئی ہیں۔

۲: احادیث شریفہ کو عام طور پر ان کے اصل مآخذ و مراجع سے نقل کیا گیا ہے۔

۳: صحیحین کے علاوہ دیگر کتب حدیث سے نقل کردہ احادیث کے متعلق علمائے

حدیث کے اقوال پیش کیے گئے ہیں۔ احادیث صحیحین کی صحت پر اجماع امت

کے پیش نظر، اہل علم کے ان کے متعلق اقوال کو ذکر نہیں کیا گیا۔

۴: آیات کریمہ اور احادیث شریفہ سے استدلال کرتے وقت تفاسیر اور شروح

① ملاحظہ ہو: مقدمة النووي لشرحہ علی صحیح مسلم، ص: ۱۴ و نزہة النظر فی توضیح

نخبة الفكر للمحافظ ابن حجر، ص: ۲۹.

حدیث سے مقدور بھر استفادہ کیا گیا ہے۔

۵: نبی کریم ﷺ اور سلف صالحین کے کچھ ایسے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، جن سے جھوٹ کے متعلق ان کی نفرت واضح ہوتی ہے۔

۶: صورتِ احوال کو اچھی طرح نکھارنے کی غرض سے جھوٹ کی چند ایک رانجِ الوقت شکلوں کی بھی نشان دہی کی گئی ہے۔

۷: کتاب کے آخر میں مصادر و مراجع کے متعلق تفصیلی معلومات درج کر دی گئی ہیں۔

شکر و دعا

اپنے رب رحیم و کریم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس اہم موضوع کے بارے میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فَللهُ الْحَمْدُ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَ مَدَادَ كَلِمَتِهِ۔

رب ذوالجلال والاکرام میرے والدین محترمین کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسائیں، کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے خوب جدوجہد فرمائی (رَبِّ ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا)

اللہ تعالیٰ میری اہلیہ محترمہ کو میری مصروفیات کا خیال رکھنے اور میری خوب خدمت کرنے کے عوض دنیا و آخرت میں بہترین جزا عطا فرمادیں۔ عزیزان القدر حافظ سجاد الہی اور عمر فاروق قدوسی کے لیے دعا گو ہوں کہ انہوں نے کتاب کی مراجعت میں تعاون کیا۔ جزاھما اللہ تعالیٰ خیرًا فی الدارين۔

میرے اور تمام اہل اسلام کے اہل و عیال کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنادیں۔ إِنَّہ سَمِیعٌ مُجِیبٌ۔

اللہ کریم اس معمولی کاوش کو قبول فرمائیں اور اسے میرے لیے، میرے اہل و



عیال، بہن بھائیوں اور ان کے اہل و عیال، اعزہ و اقارب اور تمام قارئین کے لیے
چھوٹ سے دور رہنے کا سبب بنا دیں۔ إِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ.


وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ
وَبَارَكَ وَسَلَّمَ.

فضل الہی

الریاض

۱۴۲۷/۶/۱۸ھ

برمطابق ۲۰۰۶/۷/۱۴م



مبحث اوّل

جھوٹ کی سنگینی

تمہید

جھوٹ بدترین گناہوں اور سنگین عیوب میں سے ہے۔ • اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ • قرآن و سنت میں اس کی قباحت اور برائی کو خوب واضح کیا گیا ہے۔ سلف صالحین نے بھی اس کی خرابی کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔

جھوٹ کی سنگینی اور برائی کے متعلق اس مقام پر کچھ باتیں توفیق الہی سے درج ذیل عنوانات کے تحت پیش کی جا رہی ہے:


PAKISTAN VIBES LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

- ۱: جھوٹ کا زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا
- ۲: جھوٹ کا ایمان کے منافی ہونا
- ۳: جھوٹ اور شرک کا باہمی تعلق
- ۴: جھوٹ کا منافقوں کی خصلتوں میں سے ہونا
- ۵: جھوٹ باعث قلق اور اضطراب
- ۶: راہ ہدایت کی ایک رکاوٹ جھوٹ
- ۷: جھوٹ اور اس کے مطابق عمل قبولیت روزہ میں رکاوٹ
- ۸: جھوٹ کا تاجروں کو فاجر بنانے والی چیزوں میں سے ہونا
- ۹: جھوٹ کا گناہوں اور جہنم کی طرف لے جانا



جھوٹ کی نگینہ اور اس کی اقسام

- ۱۰: کذاب کے لیے شدید اور طویل عذاب
۱۱: رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ کی نظر میں جھوٹ بدترین عادت
۱۲: جھوٹ کا خالی از خیر ہونا



جھوٹ کا زمانہ جاہلیت میں معیوب سمجھا جانا

جھوٹ کی برائی اور قباحت کے دلائل میں سے ایک یہ ہے، کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اسے معیوب سمجھتے تھے۔ ان میں سے کوئی معزز شخص اپنی طرف جھوٹ کی نسبت گوارا نہ کرتا تھا۔ یہ حقیقت اس قصہ میں نمایاں ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کیا ہے، کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں بتلایا، کہ جب نبی کریم ﷺ کا مکتوب گرامی موصول ہونے پر شاہ روم نے ابوسفیان اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ہاں طلب کیا، اور اپنے ترجمان کی وساطت سے ان سے دریافت کیا کہ: ”نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ داری کس کی ہے؟“

ابوسفیان بیان کرتے ہیں: ”میں نے کہا: ”میں رشتہ داری میں اس کا سب سے قریبی ہوں۔“

اس [شاہ روم] نے کہا:

”أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ، فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ.“

”اس کو میرے قریب کرو، اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کرو، اور انہیں

اس کے پس پشت بٹھا دو۔“

پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا: ”ان سے کہو:

”إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ.“

”میں اس شخص سے سوال کرنے لگا ہوں۔ اگر اس نے مجھ سے جھوٹ بولا،

ابوسفیان اور ان کے ساتھی تب مسلمان نہ تھے۔

تو تم اس کی تکذیب کر دینا۔“

ابوسفیان بیان کرتے ہیں:

”قَوْلَ اللَّهِ! لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتِرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَبْتُ عَلَيْهِ.“^①

”اللہ کی قسم! اگر مجھے اس بات کی حیاء نہ ہوتی، کہ مجھ سے جھوٹ نقل کیا

جائے گا، تو میں ان [نبی کریم ﷺ] کے بارے میں جھوٹ بولتا۔“

اس روایت میں یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ کے خلاف شدید بغض و عداوت رکھنے کے باوجود ابوسفیان آپ ﷺ کے متعلق کوئی جھوٹی بات نہ کہہ سکے۔ ایسا کرنے میں رکاوٹ صرف یہ تھی، کہ انہیں یہ گوارا نہ تھا، کہ لوگ ان کے بارے میں کہیں، کہ ابوسفیان نے معزز سردار ہونے کے باوجود جھوٹ بولا۔ یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کی نگاہوں میں بھی جھوٹ کی خرابی اور قباحت کو سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے۔

BAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

اللہ کریم حضرات محدثین پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، کہ انہوں نے شرح حدیث میں ابوسفیان رضی اللہ عنہ کے اس بیان کی خوب وضاحت کی ہے۔ ان میں سے پانچ حضرات کے اقوال ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

ا: علامہ ابن بطلال نے تحریر کیا ہے: ”یہ بات اس حقیقت پر دلالت کرتی ہے، کہ

جھوٹ ہر اُمت میں ناپسندیدہ اور ہر ملت میں معیوب ہے۔“^②

ب: علامہ قرطبی نے لکھا ہے: ”اس میں اس بات کی دلیل ہے، کہ جھوٹ جاہلیت اور

اسلام [دونوں] میں قابل مذمت ہے، نیز وہ معزز لوگوں کے اخلاق میں

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب بدء الوحي، جزء من رقم الحدیث ۷، وباختصار، ۳۱۱/۱

وصحیح مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم إلی هرقل يدعوه

إلی الاسلام، جزء من الروایة ۷۴ (۱۷۷۳)، ۱۳۹۶/۳۔ الفاظ روایت صحیح البخاری کے ہیں۔

② شرح صحیح البخاری لابن بطلال ۴۵۱۔

سے نہیں ہے۔“

ح: امام نووی رقم طراز ہیں: ”اس میں اس بات کا بیان ہے، کہ جھوٹ جاہلیت اور اسلام دونوں میں قبیح ہے۔“

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”یعنی اگر میری طرف لوگوں کے جھوٹ کی نسبت کا خدشہ نہ ہوتا، تو میں ان [نبی کریم ﷺ] کے بارے میں جھوٹ کہتا۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے، کہ وہ [زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی] جھوٹ کو برا گردانتے تھے، اور ان لوگوں کا یہ نقطہ نظر یا تو سابقہ شریعت کی بنا پر تھا یا اپنی معاشرتی روایات کی پاس داری کرتے ہوئے تھا۔“

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید لکھا ہے، کہ ابوسفیان نے تب جھوٹ اس خدشہ کے پیش نظر نہیں چھوڑا تھا، کہ ان کے رفقاء بھری مجلس میں انھیں جھٹلا دیں گے، کیونکہ آپ ﷺ کی دشمنی میں تو وہ سب متفق تھے۔ جھوٹ بولنے میں ان کی نگاہ میں کاکوٹ یہ تھی، کہ وطن واپس پلٹنے پر یہ بات لوگوں کے سامنے بیان ہوگی، تو وہ ان کی نظروں میں جھوٹے قرار پائیں گے۔ ابن اسحاق کی روایت میں اس بات کا صراحت سے بیان موجود ہے۔ الفاظ روایت یوں ہیں:

”قَوْلَ اللَّهِ لَوْ قَدْ كَذَبْتُ مَا رَدُّوْا عَلَيَّ ، وَلَكِنِّي كُنْتُ امْرَأًا سَيِّدًا اَتَكْرَمُ مِنَ الْكَذِبِ . وَعَلِمْتُ اَنْ اَيْسَرَ مَا فِي ذٰلِكَ ، اِنْ اَنَا كَذَبْتُهُ ، اَنْ يَحْفَظُوْا ذٰلِكَ عَنِّي ، ثُمَّ يَتَحَدِّثُوْا بِيْ ، فَلَمْ اَكْذِبْهُ.“

”اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر میں جھوٹ بولتا، تو وہ میری تردید نہ کرتے، لیکن

① شرح النووي ۱۰۴/۱۲

② المفہم ۶۰۴/۳

③ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۳۵/۱

④ فتح الباری ۳۵/۱

میں تو سردار تھا، اپنے آپ کو جھوٹ سے بلند سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ علم تھا، کہ جھوٹ بولنے کا کم از کم یہ نتیجہ تو ہوگا، کہ میرے بارے میں ایسا کرنا ثابت ہو جائے گا۔ اور پھر [لوگ] میرے بارے میں اس کا تذکرہ کریں گے، اسی بنا پر میں نے جھوٹ نہ بولا۔“

ہ: علامہ یعنی نے تحریر کیا ہے: اس کا معنی یہ ہے، کہ اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی، کہ میرے ساتھی وطن پلٹنے پر میرے متعلق بتلائیں گے، کہ میں نے جھوٹ بولا، اور مجھے اس بنا پر نشانہ طعن بنا پڑے گا، تو میں جھوٹ بول دیتا، کیونکہ جھوٹ تو فتیح ہی ہے، خواہ وہ دشمن کے خلاف کیوں نہ ہو۔

اور اس سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ جاہلیت میں بھی جھوٹ کو بُرا ہی تصور

کیا جاتا تھا۔ ❶

انہوں نے یہ بھی تحریر کیا ہے: جھوٹ کی قباحت پر عقل [بھی] دلالت کناں ہے، کیونکہ یہ عقل کے منافی ہے، کسی بھی مذہب میں جھوٹ کے جواز کا ذکر نہیں۔ ❷

فوائد حدیث بیان کرتے ہوئے علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے: ”اس [واقعہ]

میں ہے، کہ جھوٹ ہر اُمت میں ناپسندیدہ اور معیوب ہے۔“ ❸

اللہ کریم ہم سب کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ.

❶ ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۸۵/۱.

❷ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۸۵/۱.

❸ المرجع السابق ۱۰۰/۱.

جھوٹ کا ایمان کے منافی ہونا

جھوٹ کی خرابی کو آشکارا کرنے والی ایک بات یہ ہے، کہ وہ ایمان کے منافی ہے۔ اس حقیقت پر دلالت کناں نصوص اور اقوال میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

: ارشاد رب العالمین ہے:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ﴾
 هُمُ الْكُذِبُونَ ﴿۱﴾

”جھوٹ تو وہ ہی باندھتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

علامہ قاسمی اس آیت کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”جھوٹ تو انہی کو زیبا ہے، جو ایمان نہیں لاتے، کیونکہ انہیں سزا کا ڈر نہیں ہوتا، جو انہیں جھوٹ سے روک سکے۔“
 لیکن جو لوگ آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں بیان کردہ عذاب سے ڈرتے ہیں، ان سے جھوٹ نہیں بولا جاسکتا۔

شیخ ابو بکر الجزائری نے آیت کریمہ سے حاصل شدہ ہدایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: ”سچائی کے ثواب، اور جھوٹ کی سزا پر ایمان کے سبب اہل ایمان جھوٹ نہیں بولتے، لیکن کافر تو جھوٹ ہی بولتے ہیں، کیونکہ اس سے روکنے کے لیے، ان کے ہاں نہ تو ثواب کی امید ہوتی ہے اور نہ ہی سزا کا خوف۔“

جھوٹ کی خرابی کو آشکارا کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ بہت کافی ہے۔ مفسرین کرام پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں، کہ انہوں نے اس حقیقت کو خوب اچھی طرح

۱ ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمی ۱/۱۶۱۔

۲ سورة النحل / الآية ۱۰۵۔

۳ ایسر التفاسیر ۲/۵۶۹۔

۴ ملاحظہ ہو: تفسیر ابی السعود ۵/۱۴۲۔

واضح کیا ہے۔ مثال کے طور پر حافظ ابن جوزی تحریر کرتے ہیں: ”یہ آیت جھوٹ کے بارے میں سنگین ترین ڈانٹ ہے، کیونکہ اس میں جھوٹ کو ایمان نہ لانے والوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے۔“

علامہ رازی لکھتے ہیں: ”یہ آیت اس بات کی قوی دلیل ہے، کہ جھوٹ بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ، اور سنگین فحش ترین جرائم میں سے ایک سنگین جرم ہے۔ وجہ استدلال اس طرح ہے، کہ (آیت کریمہ میں) کلمہ [إِنَّمَا] استعمال کیا گیا ہے، جو کہ حصر کا فائدہ دیتا ہے اور معنی یہ ہے، جھوٹ اور بہتان کی جرأت، تو صرف وہی کرتا ہے، جس کا آیات الہیہ پر ایمان نہ ہو، اور جو کافر ہو۔ اور یہ انتہائی سنگین وعید ہے۔“

ب: امام بزار اور امام ابو یعلیٰ نے حضرت سعد بنی اللہؓ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”كُلُّ خَلَّةٍ يُطْبَعُ أَوْ قَالَ: يُطَوَّى عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ شَكَّ عَلِيِّ ابْنِ هَاشِمٍ. إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذْبَ.“

”خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن ہر خصلت پر پیدا کیا جاتا ہے۔“

علامہ طیبی خیانت اور جھوٹ کے ایمان کے منافی ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے

① زاد المسیر ۴/۴۹۴۔

② التفسیر الکبیر ۲۰/۱۱۱؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمی ۱۰/۱۶۱۔

③ مسند أبي يعلى الموصلي، مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، رقم الحديث ۲۳، ۶۷/۲-۶۸؛

حافظ منذری نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے: ”اس کے راویان صحیح کے روایت کرنے والے ہیں۔“

(الترغیب والترہیب ۱۳/۱۵۱)؛ حافظ یثربی نے لکھا ہے: ”اس کو بزار اور ابو یعلیٰ نے روایت کیا ہے

اور اسکے راویان صحیح کے روایت کرنے والے ہیں۔“ (مجمع الزوائد ۱/۹۲۱)؛ حافظ ابن حجر نے بزار

کی سند کو [قوی] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱۰/۵۰۸)۔

④ مراد یہ ہے کہ مومن خائن اور جھوٹا نہیں ہو سکتا۔

رقم طراز ہیں: ”خیانت اور جھوٹ ایمان کے منافی ہیں، کیونکہ ایمان تو [امن] سے ہے، کہ اس [ایمان] نے اس [مومن] کو تکذیب اور مخالفت سے بچالیا، علاوہ ازیں وہ [مومن] تو امانت الہیہ کا حامل ہے، لہذا اس کو امین ہونا چاہیے، نہ کہ خائن۔“ ❶

ملا علی قاری شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں: ”مومن کی جبلت اور طبیعت میں سچائی اور امانت ودیعت کی گئی ہیں، جیسا کہ تصدیق و ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ”صیغہ حصر“ سے فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾ ❷

ج: حضرات ائمہ و کعب، احمد، ہناد اور ابن ابی الدنیا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے فرمایا:

” يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبُ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ مُجَانِبٌ لِلْإِيمَانِ.“ ❸

”اے لوگو! جھوٹ سے بچ جاؤ، کیونکہ بلاشبہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔“

❶ شرح الطیبی ۱۰/۳۱۳۲۔ ❷ سورة النحل / الآية ۱۰۵۔ ❸ مرآة المفاتیح ۱۸/۶۰۰۔

❹ کتاب الزہد، باب الکذب والصدق، رقم الروایة ۳۹۹، ۳ / ۷۰۰؛ والمسند، جزء من رقم الحدیث ۱۶، ۱/۱۶۳؛ (ط: المعارف)؛ والزهد للإمام ہناد، باب الصدق والکذب، رقم الروایة ۱۳۸۸، ۱۳/۲۴۰؛ والصمت وحفظ اللسان للإمام ابن أبی الدنیا، باب ذم الکذب، رقم الروایة ۴۷۵، ص ۲۴۳-۲۴۴۔ روایت کے الفاظ المسند احمد کے ہیں۔ شیخ احمد شاکر، شیخ ارناؤوط اور ان کے رفقاء نے مسند کی اسناد کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند للشیخ أحمد ۱/۱۶۳؛ و هامش المسند للشیخ الأرناؤوط ورفقائه ۱/۱۹۸)۔ حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے، کہ بیہقی نے صحیح سند کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا: ”الکذب یُجانبُ الإیمان“ (جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔) نیز ملاحظہ ہو: هامش کتاب الزہد للذکور الفریوای ۱۳/۷۰۰؛ و هامش الزهد للشیخ محمد الحیر آبادی، ص ۱۳/۲۴۰؛ و هامش الصمت للذکور محمد عاشور ص ۲۴۴۔

د: حضرات ائمہ ابن ابی شیبہ، ہناد، ابن ابی الدنیا اور طبرانی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے فرمایا:

”عَلَى كُلِّ يَطْوَى الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ ، فَلَا تَجِدَ الْمُؤْمِنَ خَائِنًا وَلَا كَاذِبًا.“^۱

”خیانت اور جھوٹ کے سوا مومن کی تخلیق ہر خصلت پر کی جاتی ہے۔ تم کسی مومن کو خائن یا جھوٹا نہ دیکھو گے۔“

ھ: امام عبدالرزاق نے امام شعبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے فرمایا:

”كُلُّ خُلُقٍ يَطْوَى عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ إِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكَذِبَ.“^۲
 ”مومن کی جبلت میں خیانت اور جھوٹ کے سوا ہر خصلت ہوتی ہے۔“

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ جھوٹ ایمان کے منافی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

جھوٹ اور شرک کا باہمی تعلق

جھوٹ کی قباحت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ بعض آیات اور احادیث میں، جھوٹ اور شرک دونوں سے ایک ہی مقام پر منع کیا گیا ہے، یا

۱ مصنف ابن ابی شیبہ ، کتاب الأدب، باب ما جاء فی الکذب، رقم الرواية ۵۶۶۰، ۴۰۵۱۸؛ والزهد للإمام ہناد، باب الصدق والکذب، رقم الرواية ۱۳۹۴، ۲۴۳۱۳؛ والصمت وحفظ اللسان للإمام ابن ابی الدنیا، باب فی ذم الکذب، رقم الرواية ۴۹۱، ر ص ۲۴۸۔ روایت کے الفاظ کتاب [الزهد] کے ہیں۔ حافظ ثقفی نے تحریر کیا ہے: ”اس کو طبرانی نے [المعجم] الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کے راویان ثقہ ہیں۔“ (مجمع الزوائد ۹۳/۱) نیز ملاحظہ ہو: هامش الزهد للشيخ محمد الخیر آبادی (۲۴۳/۳)۔

۲ المصنف ، کتاب الجامع، باب الکذب والصدق ، وخطبة ابن مسعود رضی اللہ عنہ، رقم الرواية

دونوں کی برائی کو ایک ہی جگہ واضح کیا گیا ہے۔ ایسی تین نصوص ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:
 ا: اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾^①
 ”بتوں کی گندگی سے بچو، اور قول زور سے بچو۔“

”زور“ سے مراد..... جیسا کہ علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے..... باطل اور جھوٹ ہے، اور اس کو [زور] اس لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ حق سے ہٹا ہوتا ہے۔^②
 اس آیت کی تفسیر میں علامہ شنیطی رقم طراز ہیں: ”اس آیت کریمہ میں [اللہ تعالیٰ نے] [قول زور] سے اجتناب کا حکم دیا ہے، اور وہ جھوٹ اور باطل ہے۔“^③
 اس آیت کریمہ میں یہ بات واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتوں کی پرستش کی ممانعت کے ساتھ ہی جھوٹ سے منع فرمایا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے بیان کیا ہے:
 ”یہاں [مِنْ] جنس کے بیان کے لیے ہے، یعنی نجاست سے اجتناب کرو، اور وہ [نجاست] بت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کو، جھوٹ کے ساتھ ملا دیا گیا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے [کہ انہوں نے فرمایا]: ”جھوٹی گواہی [إِشْرَاكٌ بِاللَّهِ] کے برابر ہوئی۔“ پھر انہوں نے اس آیت کو [بطور دلیل] پڑھا۔“^④
 ب: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَايِرِ؟“

”کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟“

① ملاحظہ ہو: تفسیر القرطبی ۵۵۱/۲.

② اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔

③ سورة الحج / الآية ۳۰.

④ أضواء البيان ۶۸۹/۵.

⑤ تفسیر ابن کثیر ۲۴۲/۳.

قُلْنَا: ”بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ!“

ہم نے عرض کیا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ!“

قَالَ: ”الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.“

وَكَانَ مُتَكِنًا ، فَجَلَسَ ، فَقَالَ : ”أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ ، وَشَهَادَةُ

الزُّورِ ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.“

فَمَا زَالَ يَقُولُهَا ، حَتَّى قُلْتُ : ”لَا يَسْكُتُ.“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور

والدین کی نافرمانی۔“

[اس وقت] آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا:

”خبردار! اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی، خبردار! اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔“

آپ ﷺ اس کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے [اپنے دل

میں] کہا: ”آپ ﷺ خاموش نہ ہوں گے۔“

امام مسلم کی روایت میں ہے:

”كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: ”أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِالْكِبَائِرِ؟“ فَلَا تَأْخُذُ.

”ہم نبی ﷺ کے پاس تھے، تو آپ نے فرمایا: ”کیا میں تمہیں کبیرہ

گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں۔“ (تین مرتبہ)۔

اس حدیث شریف میں جھوٹ سمیت مذکورہ گناہوں کی سنگینی کو اجاگر کرنے والی

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، رقم

الحدیث ۵۹۷۶، ۱۰/۴۰۵؛ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر و اکبرها،

رقم الحدیث ۱۴۳ (۸۷)، ۱/۹۱. الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

② صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الکبائر و اکبرها، رقم الحدیث ۱۴۳ (۸۷)، ۱/۹۱.

③ یعنی آپ ﷺ نے یہی بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

متعدد باتیں ہیں، ان میں سے چار درج ذیل ہیں

۱: آپ ﷺ کا اپنے فرمان [کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں] کو تین مرتبہ دہرانا۔ علامہ عینی نے تحریر کیا ہے: ”آپ ﷺ نے سامع کو اچھی طرح تنبیہ کرنے کی غرض سے اس کو تین مرتبہ دہرایا، تاکہ وہ بتلائی جانے والی بات کے لیے اپنے قلب و فہم کو حاضر کر لے۔“

۲: آپ ﷺ [خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی] فرماتے وقت ٹیک چھوڑ کر سیدھے تشریف فرما ہو گئے۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: ”اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ آپ ﷺ نے اس کا اس قدر اہتمام کیا، کہ اس کو بیان کرتے وقت ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے، اور یہ [طرز عمل] اس [گناہ] کی شدید حرمت اور برائی کی سنگینی کو نمایاں کرتا ہے۔“

۳: آنحضرت ﷺ کا [جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی] کا ذکر فرماتے وقت، لفظ [خبردار] استعمال فرمانا۔ علامہ عینی کے بیان کے مطابق یہ لفظ کہی گئی بات کی طرف توجہ کرنے اور اس کو مکاحقہ سمجھنے کی تنبیہ اور تاکید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

۴: آنحضرت ﷺ کا [خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی] (کے الفاظ) کو اتنی مرتبہ دہرانا، کہ راوی اپنے دل میں کہنے لگا [آپ ﷺ خاموش نہ ہوں گے]۔ اس قدر تکرار کے پس منظر میں آپ ﷺ کا مقصود یہ تھا، کہ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی کی سنگینی سامعین کے دلوں میں جاگزیں ہو جائے۔

ج: امام مسلم اور امام ترمذی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ کا

● ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۸۸/۲۲؛ نیز ملاحظہ ہو: فتح الباري ۲۶۲/۵۔

● المرجع السابق ۲۶۲/۵؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۸۱۱/۲۔

● ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۸۸/۲۲۔

● ملاحظہ ہو: فتح الباري ۴۱۲/۱۰۔



کبار کے بارے میں ارشاد نقل کیا ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
 ”الإِشْرَاقُ بِاللَّهِ ، وَعَقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَقَوْلُ
 الزُّورِ.“[●]

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی، قتل نفس اور جھوٹی
 بات۔“

اس حدیث شریف میں بھی آپ ﷺ نے جھوٹی بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ
 شریک کرنے، والدین کی نافرمانی کرنے اور قتل نفس کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔
 امام ترمذی نے اس حدیث شریف کو درج ذیل عنوان کے تحت ذکر کیا ہے:
 [بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّغْلِيظِ فِي الْكِذْبِ وَالزُّورِ وَنَحْوِهِ] ●
 ”جھوٹ اور باطل وغیرہ کے بارے میں وارد شدہ شدت کا
 بیان۔“

جھوٹ کا منافقوں کی خصلتوں میں سے ہونا

جھوٹ کی شدید خرابی اور قباحت پر دلالت کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے
 ، کہ یہ منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت ، اور ان کی علامتوں میں سے ایک
 علامت ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے
 ، اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

● صحیح مسلم ، کتاب الإیمان ، باب بیان الكبائر وأكبرها ، رقم الحديث ۱۴۴ (۸۸) ،
 ۹۱/۱ وجامع الترمذی ، أبواب البيوع ، رقم الحديث ۱۲۲۳ ، ۳۳۳/۴ . الفاظ حدیث صحیح
 مسلم کے ہیں۔

● جامع الترمذی ۳۳۳/۴ .

” آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا اتُّمِّنَ خَانَ.“ ●

”منافق کی نشانیاں تین ہیں: جب بات کرے، تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے، تو خلاف ورزی کرے، اور جب [اس کے ہاں] امانت رکھی جائے، تو خیانت کرے۔“

امام مسلم کی روایت میں ہے:

”وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى ، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ.“ ●

”اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، اور دعویٰ کرے، کہ وہ مسلمان ہے۔“

ملا علی قاری نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: ”إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ“ ”وہ

[یعنی جھوٹ بولنا] تینوں میں سے بدترین [خصلت] ہے۔ ●

علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ شرح حدیث میں مزید لکھتے ہیں: (اگرچہ وہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے): دونوں [روزے اور نماز] کا ذکر بات کی پختگی اور استیعاب کے لیے ہے۔ مقصود یہ ہے، کہ اگرچہ وہ روزہ، نماز وغیرہ کی مسلمانوں والی عبادات ادا کرے اور کامل مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے۔ ●

علامہ غزالی نے ان تین علامات کے ذکر کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”صرف انہی تین علامتوں کے ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے، کہ یہ دیگر [بُری

● متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الإیمان، باب علامة المنافق، رقم الحدیث ۳۳،

۸۹/۱؛ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان خصائل الإیمان، رقم الحدیث ۱۰۷ (۵۹)، ۷۸/۱،

● المرجع السابق، رقم الحدیث ۱۰۹ (۵۹)، ۷۸/۱،

● مرقاة المفاتیح ۲۲۵/۱-۲۲۶ باختصار،

● ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۲۲۶/۱،

خصلتوں] کی نشان دہی کرتی ہیں، کیونکہ دین کی اساس تین چیزوں پر ہے: قول، عمل اور نیت۔ آنحضرت ﷺ نے جھوٹ کے ذریعے قول کی خرابی، خیانت کے ذریعے عمل کی خرابی اور وعدہ کی خلاف ورزی کے ذریعے نیت کی خرابی کی نشان دہی فرمائی ہے۔“

اسی بات کی ایک اور حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ طیبی رقم طراز ہیں: ”آنحضرت ﷺ نے صرف ان تینوں خصلتوں کا خصوصی طور پر ذکر اس لیے فرمایا ہے، کہ جس اختلاف پر نفاق کی بنیاد ہے، یہ تینوں اس کو سموائے ہوئے ہیں: [اور وہ ہے] ظاہر و باطن کا اختلاف، تو جھوٹ حقیقت کے خلاف خبر دینا ہے، امانت کا حق یہ ہے، کہ حق والوں کو ادا کی جائے، لیکن خیانت اس کے الٹ ہے اور وعدہ خلافی کا معاملہ تو واضح ہے، اسی لیے آنحضرت ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا: (أَخْلَفَ) [یعنی خلاف ورزی کی]۔“

امام نووی نے حدیث شریف کے معنی بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”اس کا صحیح معنی یہ ہے، کہ یہ خصلتیں منافقوں کی خصلتیں ہیں، اور ان کا حامل ان خصلتوں کے اعتبار سے منافقین کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اور ان کے اخلاق کے ساتھ متصف ہے، کیونکہ نفاق باطن کے برعکس ”ظاہر کرنا“ ہے اور ان خصلتوں کے حامل شخص میں یہ معنی موجود ہے۔“

علاوہ ازیں بعض علمائے اُمت نے بیان کیا ہے، کہ نفاق کی اساس اور بنیاد جھوٹ ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں: ”کہا جاتا تھا: ظاہر و باطن، قول و عمل اور داخلی اور خارجی صورت حال کا باہمی اختلاف نفاق سے ہے، اور وہ اساس جس پر نفاق کی عمارت قائم ہے، وہ جھوٹ ہے۔“

① شرح الطیبی ۵۰۸/۲

① إحياء علوم الدين ۱۳۴/۳

② إحياء علوم الدين ۱۳۴/۳

② شرح النووي ۴۷/۲

جھوٹ کا باعث قلق و اضطراب ہونا

جھوٹ کی خرابی اور قباحت کو اجاگر کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ جھوٹ بولنے والا قلق اور اضطراب میں مبتلا رہتا ہے۔ حضرات ائمہ ابو داؤد الطیالسی، احمد، ترمذی، ابویعلیٰ اور القضاعی نے ابو الحوراء رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا:

”مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟“

”آپ نے رسول اللہ ﷺ سے کونسی باتیں سیکھیں؟“

انہوں نے فرمایا:

”حَفِظْتُ مِنْهُ: ”الْصِّدْقُ طَمَآنِينَةً، وَالْكَذْبُ رِيْبَةً.“

”میں نے آنحضرت ﷺ سے [یہ بات] حاصل کی: ”سچ [دل کے

لیے باعث] اطمینان ہے اور جھوٹ [دل کے لیے سبب] قلق ہے۔“

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے جھوٹ کو [ریبۃ] قرار دیا ہے، اور اس سے

① مسند أبي داود الطيالسي، أحاديث الحسن بن علي رضي الله عنهما، جزء من رقم الحديث ١٢٧٤، ٤٩٩/٢؛ والمسند، جزء من رقم الحديث ١٧٢٢، ٢٤٩/٣؛ وجامع الترمذي، أبواب صفة القيامة، باب، جزء من رقم الحديث ٢٦٣٧، ١٨٦/٧-١٨٧؛ ومسند أبي يعلى، مسند الحسن بن علي رضي الله عنهما، جزء من رقم الحديث ٦ (٢٧٦٢)، ١٢/١٣٢؛ ومسند الشهاب، الصدق طمانينة والكذب ريبه، رقم الحديث ٢٧٥، ١٨٦/١. الفاظ حدیث مسند الشهاب کے ہیں۔ امام ترمذی، شیخ البانی، ڈاکٹر محمد ترکی اور شیخ حمزہ عبدالحمید السلفی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: جامع الترمذی ١٨٧/٧؛ وصحیح سنن الترمذی ٣٠٩/٢؛ وھامش أبي داود الطيالسي ٤٩٩/٢؛ وھامش مسند الشهاب ١٨٦/١)؛ شیخ أرناؤوط، ان کے رفقاء اور استاذ حسین سلیم اسد نے اس کی اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: ھامش المسند ٢٤٩/٣؛ وھامش مسند أبي يعلى ١٣٢/١٢)۔

مرا جیسا کہ ملا علی قاری نے بیان کیا ہے یہ ہے کہ وہ نفس کے لیے قلق اور بے چینی کا سبب ہے۔ ❶

روز مرہ زندگی میں جھوٹے شخص کا اضطراب اور بے چینی حدیث شریف میں بیان کردہ حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ بدنصیب اپنے ایک جھوٹ کی پردہ پوشی یا اصلاح کی خاطر کتنے جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن کیا تھوڑی مقدار میں گندگی سے پیدا ہونے والی بدبو کو زیادہ مقدار میں نجاست دور کر سکتی ہے؟ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا؟ ❷

6

جھوٹ کا راہ ہدایت کی رکاوٹ ہونا

کتاب و سنت میں راہ ہدایت کی رکاوٹوں کو بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک رکاوٹ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ❶

”بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، جو جھوٹا کافر ہو۔“

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، کہ جھوٹا کافر توفیق ہدایت سے محروم رہتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے اس حقیقت کو خوب اُجاگر کیا ہے۔ ذیل میں ان میں سے تین کے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے: جھوٹے [اور] کافر کو اللہ تعالیٰ حق کی طرف ہدایت پانے کی توفیق نہیں دیتے، کیونکہ ان دونوں میں بصیرت مفقود ہوتی ہے۔ ❷

❶ ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۲۴/۶۔

❷ ”ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کہ وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتے۔“

❸ ملاحظہ ہو: تفسیر البیضاوی ۳۱۹/۲۔

❹ سورة الزمر الآية ۳۔

۲۔ علامہ الوسی رقم طراز ہیں: یعنی اللہ تعالیٰ توفیق ہدایت جو کہ مکروہ سے نجات پانے اور مقصود حاصل کرنے کی راہ ہے، جھوٹے کافر کو عطا نہیں فرماتے، کیونکہ وہ ہدایت پانے کے قابل ہی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک شخص کو اس کی صلاحیت اور قابلیت کے بقدر ہی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے:

﴿وَمَا ظَلَمْنَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ •

[اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔] •

۳۔ شیخ سعدی لکھتے ہیں: جس کا وصف جھوٹ یا کفر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت نہیں دیتے۔ مواعظ اور نشانیاں آنے کے باوجود اس کے [دونوں بُرے] اوصاف دور نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانیاں دکھائیں، اور وہ ان کا انکار کرے اور ان کے ساتھ کفر کرے، تو ایسے شخص کو ہدایت کیوں کر نصیب ہو سکتی ہے؟ اس نے تو خود اپنے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر رکھا ہے۔ اس کے بدلے میں اس کو یہ سزا دی گئی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر ثبت فرمادی، سو وہ ایمان نہیں لاتا۔ •

اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ اور کفر سے محفوظ رکھیں اور صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت دیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ.

7

جھوٹ اور اس کے مطابق عمل قبولیت روزہ میں رکاوٹ

جھوٹ کی سنگینی کو آشکار کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنا روزے کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ امام بخاری نے

• ملاحظہ ہو: روح المعانی ۲۳/۲۳۶۔

• سورة النحل / جزء من الآية ۱۱۸۔

• ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۷۸۵۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ.“

”جس نے جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کو ترک نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کو اس

کے طعام و شراب [کھانا پینا] چھوڑنے کی چنداں حاجت نہیں۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے امت کو تنبیہ فرمائی، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنے والے شخص کا روزہ قبول نہیں فرماتے۔ علامہ ابن منیئر شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں: [فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ]۔ اس میں روزے کی عدم قبولیت کی طرف اشارہ ہے اور مقصود یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ والے روزے کو مسترد فرمادیتے ہیں، اور اس کو قبول نہیں فرماتے۔“

قاضی عیاض نے اس بات کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے: روزے کا مقصود شہوت کو توڑنا اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ کا تابع بنانا ہے، اور جب اس سے یہ مقصد پورا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی پروا کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف نظر عنایت فرماتے ہیں۔ [اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں] سے مراد اس کی طرف نظر عنایت نہ فرمانا اور قبول نہ کرنا ہے۔

وہ اس کی جانب نظر شفقت کیوں کر فرمائیں، جب کہ صورتِ حال یہ ہے،

① صحیح البخاری، کتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، رقم

الحدیث ۱۹۰۳، ۱۱۶/۴۔

② ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱۱۷/۴؛ نیز دیکھیے: عمدة القاری ۲۷۶/۱۰؛ وشرح الطیبی

کہ اس نے وہ چیزیں تو ترک کر دی، جو رمضان کے سوا دیگر دنوں میں مباح تھیں، لیکن اس بات کا ارتکاب کیا، جو کہ سب دنوں میں حرام ہے۔^❶

علامہ طیبی نے دلالتِ حدیث کو بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”یہ حدیث اس بات پر دلالت کناں ہے، کہ جھوٹ تمام فواحش کی اساس، اور تمام منہیات کا منبع ہے، بلکہ وہ تو قرین شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾^❷

[بتوں کی نجاست سے اجتناب کرو اور جھوٹ سے اجتناب کرو۔]

اور یہ معلوم ہے کہ شرکِ اخلاص کی ضد ہے اور روزے کا اخلاص سے خصوصی تعلق ہے، اس لیے وہ اپنی ضد کی موجودگی میں اُٹھ جاتا ہے۔^❸ واللہ تعالیٰ اعلم“

جھوٹ کا تاجروں کو فاجر بنانے والی چیزوں میں سے ہونا

جھوٹ کی قباحت اس حقیقت سے بھی واضح ہوتی ہے، کہ وہ تاجر حضرات کو فاجر لوگوں میں شامل کرنے کے اسباب و عوامل میں سے ایک ہے۔ امام احمد اور امام حاکم نے حضرت عبدالرحمن بن شبل انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ التُّجَّارَ هُمُ الْفُجَّارُ.“

”بلاشبہ تاجر ہی تو فاجر ہیں۔“

”قَالَ رَجُلٌ: ”يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَمْ يُحَلِّ اللَّهُ الْبَيْعَ؟“

❶ ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۴/۴۹۲؛ نیز دیکھیے: شرح الطیبی ۱۵/۱۵۹۰۔

❷ سورۃ الحج / الآیة ۳۰۔
❸ یعنی ناقابل قبول قرار پاتا ہے۔

❹ شرح الطیبی ۱۵۹۰-۱۵۹۱۔

ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ ﷺ! کیا اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال نہیں فرمایا؟“

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكْذِبُونَ ، وَيَحْلِفُونَ وَيَأْتُمُونَ.“^①

”درحقیقت وہ بات کرتے ہیں، تو جھوٹ بولتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے، کہ گفتگو میں جھوٹ اور قسموں میں گناہ، تاجر حضرات کو فاجر لوگوں میں شامل کر دیتے ہیں۔

علاوہ ازیں نبی کریم ﷺ نے امت کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا ہے، کہ بیع تاجر حضرات کو فاجر لوگوں کے گروہ سے نکال دیتا ہے۔ حضرات امہ عبدالرزاق، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ بیع کی جانب روانہ ہوئے، [راستے میں] لوگ خرید و فروخت کر رہے تھے، تو آنحضرت ﷺ نے آواز دی:

”يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ!“

”اے گروہ تجارا!“

وہ آپ ﷺ کی جانب متوجہ ہوئے اور اپنی نگاہوں کو آپ کی جانب اٹھایا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

① المسند، رقم الحدیث ۱۵۶۶۹، ۲۴/۴۴؛ والمستدرک علی الصحیحین، کتاب البیوع، ۷۶/۲۔ امام حاکم نے اس کو [صحیح الاسناد] قرار دیا ہے، اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۷۱۲؛ والتلخیص ۷۱۲)۔ حافظ بیہقی نے تحریر کیا ہے: اس کو طبرانی اور أحمد نے روایت کیا ہے، اور اس کے راویان صحیح کے روایت کرنے والے ہیں۔ (ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد: ۳۶/۸)؛ شیخ ارنائڈ وٹ اور ان کے رفقاء نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۴۴/۲۴)۔

” إِنَّ التَّجَارَ يُعْتُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَّ
وَصَدَّقَ.“ •

”بلاشبہ تاجروں کی قیامت فاجر [کی حیثیت سے] اٹھائے جائیں گے، مگر
[ان میں سے] تقویٰ کی راہ اختیار کرنے والے، نیکی کرنے والے اور
سچ بولنے والے۔“

شرح حدیث میں علامہ طیبی نے لکھا ہے: ”جس نے اپنی تجارت میں محنت اور
کوشش سے سچ اور امانت کو اختیار کیا، وہ انبیاء اور صدیقوں کے نیکو کار گروہ میں
ہوگا، اور جس نے ان کے برعکس روش پسند کی، وہ فاسقوں اور نافرمانوں کی صحبت
میں ہوگا۔“ •

اے اللہ کریم! ہمیں جھوٹ سے بچانا اور اپنی رحمت بے پایاں سے نیک لوگوں
میں شامل فرمانا، فاجروں میں داخل نہ فرمانا۔ آمین یا ذالجلال والإکرام۔

① المصنف، کتاب الجامع، باب التجارة، و من أكل وليس بأخيه، رقم الحديث ٢٠٩٩٩،
٤٥٨/١١؛ وجامع الترمذی، أبواب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي ﷺ
إياهم، رقم الحديث ١٢٢٨ / ٣٣٥/٤ - ٣٣٦؛ و سنن ابن ماجه، أبواب التجارات، التوفي
في التجارة، رقم الحديث ٢١٦١، ٦١٢؛ و سنن الدارمي، كتاب البيوع، باب في التجار،
رقم الحديث ١٥٤١، ١٦٣/٢؛ و الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البيوع،
ذكر إثبات الفحور للتجار الذين لا يتقون في بيعهم وشرائعهم، رقم الحديث
٤٩١٠، ٢٧٧/١١؛ و المستدرک علی الصحیحین، كتاب البيوع ٦١٢. امام ترمذی نے اس
کے بارے میں تحریر کیا ہے: ”یہ حدیث حسن صحیح ہے۔“ (جامع الترمذی ٣٣٦/٤)؛ امام حاکم نے
اس کو [صحیح الإسناد] قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: المستدرک
علی الصحیحین ٦١٢؛ و التلخیص ٦١٢)؛ شیخ البانی نے اس کو [صحیح لغیرہ] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو:
صحیح الترغیب و الترهیب ٣٤٢/٢).

② شرح الطیبی ٢١١٩/٧.

جھوٹ کا گناہوں اور جہنم کی طرف لے جانا

جھوٹ اپنے بولنے والے کو راہِ حق سے ہٹا کر گناہوں کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کو جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ اس بارے میں چار دلائل ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بنی اللہ سے روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ،
وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا . وَإِنَّ الْكُذْبَ يَهْدِي
إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ . وَإِنَّ الرَّجُلَ
لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا .“ ❶

”بلاشبہ سچ نیکی کی طرف راہ نمائی کرتا ہے، اور نیکی جنت کی راہ دکھاتی ہے، اور یقیناً آدمی سچ بولتا [رہتا] ہے، یہاں تک کہ وہ صدیق بن جاتا ہے۔ ❷ جھوٹ بلاشبہ بُرائی کی راہ دکھاتا ہے، اور بُرائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے اور یقیناً آدمی جھوٹ بولتا [رہتا] ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔“

❶ متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب قول اللہ تعالیٰ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، وما ينهى عن الكذب، رقم الحديث ۵۰۷/۱۰۶۶، ۵۰۷/۱۰۶۶، صحیح مسلم، کتاب البر والصلوة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم الحديث ۱۰۳ (۲۶۰۷) ۴/۳۰۱۲-۲۰۱۳۔

❷ یعنی [بہت زیادہ سچ بولنے والا] کے عظیم لقب کا مستحق قرار پاتا ہے۔

اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے:

”عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ ، فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصَّدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدَقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا. وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا.“ ●

”ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرو، کیونکہ سچ نیکی کی جانب راہ نمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچ گوئی کی خاطر کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے دور رہو، کیونکہ جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا جھوٹا تحریر کیا جاتا ہے۔“

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے سچ گوئی اور اس پر مداومت کا حکم دیا ہے اور اُمت کو اس حقیقت سے آگاہ فرمایا ہے، کہ اس سے اعمالِ صالحہ کی توفیق میسر آتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ مزید برآں آنحضرت ﷺ نے جھوٹ سے منع فرمایا اور یہ بیان فرمایا، کہ وہ گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، جو کہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کریم محدثین کو جزائے خیر عطا

● صحیح مسلم ، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب قبح الکذب وحسن الصدق وفضله ،

رقم الحدیث ۱۰۵ (۲۶۰۷)، ۲۰۱۳/۴.

فرمائیں، کہ انہوں نے شرح حدیث میں اس بات کو خوب واضح فرمایا۔ ان میں سے تین کے اقوال ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱: علامہ ابن بطلال نے تحریر کیا ہے: حدیث عبداللہ رضی اللہ عنہ کا کتاب اللہ میں مصداق [یہ آیت کریمہ ہے]: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي

جَحِيمٍ﴾ •

[بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اور بلاشک و شبہ بدکار جہنم میں ہوں گے۔]

سچ گوئی مومن کی سب سے بلند و بالا خصلت ہے۔ کیا تم نے ارشادِ باری تعالیٰ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ •

[اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔]

کو نہیں دیکھا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سچ کو تقویٰ کے ساتھ ملا دیا ہے۔ •

۲: علامہ ابن العربی نے لکھا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے بیان فرمایا، کہ سچ وہ

اساس ہے، جو ہر نیکی کی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ جب کوئی شخص سچ بولنے کی

کوشش کرنے والا ہوگا، تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرے گا۔ جب بھی وہ شراب پینا

چاہے گا، یا بدکاری کا ارادہ کرے گا، یا کسی کو ایذا دینے کا سوچے گا، تو اس کو

خدشہ ہوگا، کہ اس سے کہا جائے گا: ”کیا تم نے بدکاری کی ہے؟“ یا ”کیا تم

نے شراب پی؟“ اگر جواب میں چپ رہے گا تو مشکوک ٹھہرے گا، اگر جواب

میں [نہیں] کہے گا، تو جھوٹا بنے گا، اور اگر [ہاں] کہے گا، تو اس کی عزت

① سورة التوبة/الآية ۱۱۹.

② سورة الانفطار/ الآيات ۱۳-۱۴.

③ ملاحظہ ہو: شرح صحیح البخاری لابن بطلال ۲۱۰/۹.

غارت ہو جائے گی، اور وقار جاتا رہے گا۔“ ●

۳: علامہ قرطبی رقم طراز ہیں: ”[يَهْدِي] سے مراد راہ نمائی کرنا اور پہنچانا ہے۔ [الْبِرِّ] کا معنی عمل صالح یا جنت ہے، اور [الْفُجُورِ] سے مقصود بُرے اعمال ہیں، [عَلَيْكُمْ] جوش دلانے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ میں سے ہے اور یہ صراحت کے ساتھ اس بات پر دلالت کناں ہے، کہ اس کا کرنا لازمی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنے والے ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کہ وہ گفتار میں سچائی، اعمال میں اخلاص، اور احوال میں ستھرائی کو اختیار کرے۔ اور جو بھی ایسے ہوگا، وہ البراد میں شامل ہو جائے گا اور غفقا کی خوش نودی حاصل کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے والے تین [صحابہ کرام] کے احوال کا تذکرہ فرماتے ہوئے اس سب کچھ کی طرف راہ نمائی فرمادی ہے۔ انہوں نے فرمایا:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ ●

[اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔]

ممنوعہ جھوٹ کے بارے میں گفتگو سچ گوئی کے متعلق بیان کردہ بات کے برعکس ہے۔“ ●

ب: حضرات ائمہ احمد، بخاری، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابو یعلیٰ الموصلی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ وہ فرماتے ہیں، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْبِرِّ ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ .“

وَيَاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّهُ مَعَ الْفُجُورِ ، وَهُمَا فِي النَّارِ . ●
 ”سچ کو لازم کرو، کیوں کہ وہ نیکی کے ساتھ ہے اور وہ دونوں جنت میں
 ہیں، جھوٹ سے دُور رہو، کیوں کہ وہ برائی کے ہمراہ ہے اور وہ
 دونوں [جہنم کی] آگ میں ہیں۔“

ج: امام احمد نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک شخص نے نبی
 کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا:
 ”يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَمَلُ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟“
 ”اے اللہ کے رسول! اہل جنت کا عمل کیا ہے؟“
 آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”الصَّدَقُ ، وَإِذَا صَلَّقَ بَرٌّ ، وَإِذَا بَرٌّ آمَنَ ، وَإِذَا آمَنَ دَخَلَ الْجَنَّةَ.“
 ”سچ گوئی اور جب سچ بولا تو نیکی کی، ● اور جب نیکی کی تو ایمان لایا اور
 جب ایمان لایا تو جنت میں داخل ہو گیا۔“
 اس [آنے والے شخص] نے عرض کیا:

- المسند، رقم الحديث ۱۶۳/۱، ۱۷ (ط: دار المعارف)؛ والأدب المفرد، باب من سأل
 الله العافية، رقم الحديث ۷۲۵، ص ۲۴۴؛ وسنن ابن ماجه، أبواب الدعاء، باب الدعاء
 بالعمو والعافية، رقم الحديث ۳۸۹۴، ۳۴۵/۲؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان،
 كتاب الحظر والإباحة، باب الكذب، ذكر الزجر عن تعود المرء الكذب في كلامه إذ
 الكذب من الفجور، رقم الحديث ۴۳/۱۳، ۵۷۳؛ ومسند أبي يعلى الموصلي، مسند
 أبي بكر الصديق رضي الله عنه، رقم الحديث ۱۲۱، ۱۱۲/۱. الفاظ حدیث صحیح ابن حبان کے ہیں۔ شیخ
 احمد شاکر، شیخ ارناؤوط، شیخ حسین سلیم أسد نے اس کی [اسناد کو صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش
 المسند للشيخ أحمد شاکر ۱/۱۶۳؛ و هامش الإحسان ۴۳/۱۳؛ و هامش مسند أبي يعلى
 الموصلي ۱/۱۱۲)؛ شیخ البانی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحيح الأدب المفرد
 ص ۱۹۵؛ و صحيح سنن ابن ماجه ۳۲۸/۲؛ و صحيح الترغيب والترهيب ۱۲۴/۳).
 ● یعنی سچ گوئی سے نیکی کی توفیق میسر آنے پر دیگر نیک اعمال کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔

”يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا عَمَلُ أَهْلِ النَّارِ؟“
 ”اے اللہ کے رسول! جہنمیوں کا عمل کیا ہے؟“

حضرت ﷺ نے فرمایا:

”الْكَذِبُ ، إِذَا كَذَبَ [الْعَبْدُ] فَجَرَ ، وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ ، وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ“ يَعْنِي النَّارَ .“ ●

”جھوٹ، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو بُرا عمل کرتا ہے اور جب بُرا عمل کرتا ہے تو کفر کرتا ہے اور جب کفر کرتا ہے تو [جہنم کی] آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔“

امام ابن ابی الدنیا نے مرہ ہدائی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا وَيَثْبُتَ الْفُجُورُ فِي قَلْبِهِ ، فَلَا يَكُونُ لِلْبِرِّ مَوْضِعٌ إِبْرَةً يَسْتَقِرُّ فِيهِ.“ ●

”جھوٹ سے بچو، کیوں کہ وہ [جہنم کی] آگ کی طرف لے جاتا ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا

المسند، رقم الحدیث ۱۲۶۱۰، ۱۲۶۱۱، ۱۲۶۱۲ (ط: دار المعارف)؛ شیخ احمد شاہ نے اس کی [اسناد کو صحیح] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۱۲۶/۱۰)۔

الصمت وحفظ اللسان، باب ذم الکذب، رقم الأثر ۴۶۸، ص ۲۴۱۔ نیز ملاحظہ ہو: کتاب الزهد للإمام وكيع، باب الکذب والصدق، رقم الأثر ۳۹۸، ۶۶۹/۳۔ اور اس میں ہے: ”اور یقیناً جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل میں نیکی کے لیے سوئی کے برابر جگہ [بھی] نہیں رہتی۔“ ڈاکٹر فریوای نے [کتاب الزهد] کی روایت کے بارے میں تحریر کیا ہے، کہ اس کے راویان ثقہ ہیں اور اس کی اسناد صحیح ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش کتاب الزهد ۶۹۹/۳)۔

جھوٹا لکھا جاتا ہے اور برائی اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے اور اس میں سوئی کے برابر بھی نیکی کے لیے جگہ باقی نہیں رہتی۔“

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ جھوٹ بندے کو بُرے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، جو اس کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک فرمادیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمادیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ.

10

کذاب کے لیے شدید اور طویل عذاب

جھوٹ کی سنگینی کے دلائل میں سے ایک یہ ہے، کہ کذاب کے لیے شدید طویل عذاب ہے۔ امام بخاری نے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت نقل ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”رَأَيْتُ رَجُلَيْنِ اتَّبَعْنِي قَالَا: ”الَّذِي رَأَيْتَهُ يُشَقُّ شِدْقُهُ فَكَذَّابٌ، يَكْذِبُ بِالْكَذْبَةِ تُحْمَلُ عَنْهُ، حَتَّى تَبْلُغَ الْآفَاقَ، فَيُضَنَعُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.“

”میرے پاس [خواب میں] دو آدمی آئے، انہوں نے کہا: ”جیسے آپ نے دیکھا، کہ اس کا جڑا چیرا جا رہا ہے، وہ بڑا ہی جھوٹا تھا، ایک جھوٹ بولتا، جو کہ اس سے نقل کیا جاتا، یہاں تک کہ ساری دنیا میں پھیل جاتا، اس کو روز قیامت تک یہی سزا ملتی رہے گی۔“

حدیث شریف کے ابتدائی الفاظ یہ ہیں:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ

① صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ وما ينهى عن الكذب، رقم الحديث ٥٠٧/١٠٠٦٠٩٤.

رَجُلَيْنِ آتَيْنِي ، فَأَخَذَا بِيَدِي ، فَأَخْرَجَانِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ ،
فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
عَنْ مُوسَى : كَلُوبٌ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلُهُ فِي شِدْقِهِ . حَتَّى يَبْلُغَ
قَفَاهُ ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَيَلْتَمُّ شِدْقُهُ
هَذَا ، فَيَعُوذُ ، فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. ” ❶

نبی ﷺ نے فرمایا: ” لیکن آج رات میں نے [خواب میں] دیکھا، کہ
دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ کو تھاما اور مجھے ارض
مقدس کی طرف لے گئے (اور وہاں سے مجھے عالم بالا کی سیر کرائی)،
:ہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اور ایک شخص کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں
لوہے کا آنکس تھا..... ہمارے بعض اصحاب نے موسیٰ سے روایت کرتے
ہوئے نقل کیا: کہ لوہے کے آنکس کو ہاتھ میں لیے ہوئے اس [بیٹھے
ہوئے شخص] کے جڑے میں داخل کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اس کی گدی
تک پہنچ جاتا، پھر دوسرے جڑے کے ساتھ اسی طرح کرتا۔ [اس
دوران میں] اس کا پہلا جڑا صحیح اور اپنی اصلی حالت میں آجاتا، تو پھر
پہلے کی طرح وہ اس کو دوبارہ چیر دیتا۔“

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے کذاب کے شدید عذاب کے بارے
میں امت کو آگاہ فرمایا ہے۔ علامہ ابن بطلال نے تحریر کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے
یث سمرہ رضی اللہ عنہ میں اس کذاب کی سزا کو بیان فرمایا ہے، جس کا جھوٹ دنیا میں پھیل
تا ہے، کہ روزِ قیامت تک اس کے جڑے کو آگ میں چیرا جاتا ہے۔ گناہ کی
[ہی] میں اس کو سزا دی گئی اور وہ اس کا منہ ہے، جس کے ذریعہ وہ جھوٹ

• بولتا تھا۔“

مذکورہ بالا حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کہ کذاب کی یہ سزا قیامت کے پاپا ہونے تک جاری رہے گی۔ امام ابن ابی جرہ نے لکھا ہے: ”فَيُصْنَفُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.“ [اسی طرح] جاری رہے گی، کہ اس کا تسلسل نہ ٹوٹے گا۔“

اور جب کذاب کے عذاب کی سنگینی قبل از قیامت اس قدر شدید ہے، تو اس کے بعد کیفیت کیا ہوگی؟ اس بارے میں امام ابن ابی جرہ ہی نے تحریر کیا ہے: ”جب موت سے لے کر روز قیامت تک اس کا حال یہ ہوگا، تو قیامت کے دن اس کی حالت کیسی ہوگی؟“

اے اللہ کریم! اپنے فضل و کرم سے ہمیں جھوٹ اور اس کی سزا سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا حی یا قیوم۔

رسول اللہ ﷺ اور حضرات صحابہ کا جھوٹ کے متعلق موقف

جھوٹ کی خرابی اور قباحت کو واضح کرنے والی باتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، کہ رسول کریم ﷺ اور حضرات صحابہ کی نگاہوں میں یہ سب سے بُری اور ناپسندیدہ عادت تھی۔ اس سلسلے میں ذیل میں تین روایات ملاحظہ فرمائیے:

۱: امام ابن حبان نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

”مَا كَانَ خُلُقُ أَبِغْضَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكُذْبِ. وَلَقَدْ

① شرح صحيح البخاري لابن بطلال ۲۸۱/۹.

② بهجة النفوس ۱۲۰/۲.

كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَهُ الْكِذْبَةَ ، فَمَا تَزَالُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى
يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْهَا تَوْبَةً. ●

”رسول اللہ ﷺ کو جھوٹ سے زیادہ کوئی عادت ناپسند نہ تھی۔ بلاشبہ کوئی شخص آپ ﷺ کے سامنے جھوٹ بولتا، تو یہ آپ ﷺ کے دل میں رہتا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کو علم ہو جاتا، کہ اس شخص نے اس [جھوٹ] سے توبہ کر لی ہے۔“

ب: امام حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

”مَا كَانَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكُذْبِ ، وَمَا
جَرَّبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَحَدٍ ، وَإِنْ قُلَّ ، فَيُخْرِجُ لَهُ مِنْ
نَفْسِهِ ، حَتَّى يُجَدِّدَ لَهُ تَوْبَةً. ●“

”رسول اللہ ﷺ کو کسی بھی چیز سے جھوٹ سے زیادہ نفرت نہ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کو کسی شخص سے اس بات کا سابقہ نہ پڑتا، اگرچہ وہ [جھوٹ] قلیل ہی ہوتا، مگر آپ ﷺ اس کو اپنے دل سے نہ نکالتے، یہاں تک کہ وہ اس [جھوٹ] سے از سر نو توبہ نہ کر لیتا۔“

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحظر والإباحة، باب الكذب، ذكر البيان بأن الكذب كان من أبغض الأخلاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رقم الحديث ٤٥٠٤٤١١٣، ٥٧٣٦. شيخ ارتاؤوط نے اس کی [اسناد کو صحیح] کہا ہے اور شیخ البانی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش الإحسان ٤٥٠١١٣؛ وصحيح الترغيب والترهيب ١٢٦/٣).
- المستدرک علی الصحیحین، کتاب الأحکام، ٩٨/٤. امام حاکم نے اس کی [اسناد کو صحیح] قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: المرجع السابق ٩٨/٤؛ والتلخیص ٩٨/٤)؛ شیخ البانی نے اس کو [صحیح لثمرہ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحيح الترغيب والترهيب ١٢٦/٣).

ج: امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

”مَا كَانَ خُلُقُ أَبِغَضَ إِلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْكُذِبِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَكْذِبُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْكُذِبَةَ ، فَمَا يَزَالُ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَحَدَتْ مِنْهَا تَوْبَةً.“ ●

”رسول اللہ ﷺ کے صحابہ کو جھوٹ سے زیادہ کسی اور عادت سے نفرت نہ تھی۔ بلاشبہ کوئی شخص آپ ﷺ کے روبرو جھوٹ بولتا، تو اس کے بارے میں یہ [بات] آپ ﷺ کے دل میں رہتی، یہاں تک کہ آپ ﷺ کو اس کے جھوٹ سے نئے سرے سے توبہ کرنے کا علم ہو جاتا۔“

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

www.pdfbooksfree.pk

مذکورہ بالا روایات سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

- ۱: پہلی اور دوسری روایت کے مطابق رسول کریم ﷺ کو تمام عادات میں سے جھوٹ کے ساتھ سب سے زیادہ نفرت تھی۔
- ۲: تیسری روایت کے مطابق رسول کریم ﷺ کے صحابہ کے نزدیک بھی جھوٹ تمام عادات میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت عادت تھی۔
- ۳: بلاشبہ ہمارے نبی کریم ﷺ مجسمہ شفقت اور سراپا عفو و درگزر تھے، آپ کا

● المسند، رقم الحدیث ۲۵۱۸۳، ۱۰۰۱۴۲-۱۰۱-۱۰۱ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ شیخ ارناؤوط اور ان کے رفقاء نے اس کی [اسناد کو صحیح] کہا ہے اور تحریر کیا ہے، کہ اس کے روایت کرنے والے صحیحین کے راویوں میں سے ہیں۔ ملاحظہ ہو: هامش المسند (۱۰۱/۱۴۲)۔ اس مضمون کی حدیث امام ابن ابی الدنیا نے بھی روایت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: الصمت وحفظ اللسان، باب ذم الکذب، رقم الحدیث ۴۷۶، ص ۲۴۴)۔

قلب مبارک ساری مخلوق کے دلوں سے زیادہ صاف، شفاف اور پاکیزہ تھا، لیکن اس کے باوجود اگر کسی کو جھوٹ بولتے ہوئے سنتے، خواہ وہ معمولی ہی ہوتا، جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، تو جھوٹ بولنے والے کے بارے میں یہ تاثر آپ کے دل میں رہتا، یہاں تک کہ آپ ﷺ کو اس کے از سر نو توبہ کرنے کا علم ہو جاتا۔

12

جھوٹ کا خالی از خیر ہونا

سچ میں خیر ہے اور جھوٹ خیر سے خالی ہوتا ہے۔ اس بارے میں امام عبدالرزاق اور امام ابن ابی الدینا نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا: ”عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے:

”لَيْسَ فِيمَا دُونَ الصِّدْقِ مِنَ الْحَدِيثِ خَيْرٌ. مَنْ يَكْذِبُ يَفْجُرُ،
وَمَنْ يَفْجُرُ يَهْلِكُ.“

”بات میں سچ سے ہٹ کر کوئی خیر نہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے، [وہ جھوٹ کی وجہ سے] بڑے گناہ کرتا ہے اور جس نے بڑے گناہ کیے وہ ہلاک ہو گیا۔“

امام ابن ابی الدینا نے سعید بن یزید سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں نے شععی کو شعر پڑھتے ہوئے سنا:

① المصنف، کتاب الجامع، باب الكذب والصدق، وخطبة ابن مسعود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رقم الرواية ٤١٦٢/١١، ٢٠٢٠٤ والصمت وحفظ اللسان للإمام ابن أبي الدنيا، باب في ذم الكذب، رقم الحديث ٤٨٨، ص ٢٤٧. الفاظ روایت ابن ابی الدینا کے ہیں۔

- أَنْتَ الْفَتَى كُلُّ الْفَتَى إِنَّ كُنْتَ تَصَدَّقُ مَا تَقُولُ
لَا خَيْرَ فِي كَذِبِ الْجَوَادِ وَ حَبْدًا صِدْقِ الْبَخِيلِ
- ”اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، تو تم جو ان مردِ کامل ہو۔ سخی کے جھوٹ میں
کچھ خیر نہیں اور بخیل کا جھوٹ اچھا ہے۔“



مبحث دوم

جھوٹ چھوڑنے کا صلہ

جھوٹ ترک کرنے کی برکات دنیا و آخرت دونوں میں ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بہترین مثال غزوہ تبوک میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شامل نہ ہونے والے تین حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا واقعہ ہے، کہ جب آنحضرت ﷺ نے ان سے غزوہ سے غیر حاضری کے متعلق استفسار کیا، تو انہوں نے جھوٹ کو چھوڑتے ہوئے، ساری صورت حال سچ سچ عرض کر دی۔

ان کے اس طرز عمل پر اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوئے، کہ ان پر وہ انعام فرمایا، جو ان کی نگاہوں میں نعمت اسلام کے بعد ربّ ذوالجلال کا ان پر سب سے بڑا انعام تھا۔ توفیق الہی سے ذیل میں انہی کا قصہ قدرے اختصار سے عرض کیا جا رہا ہے:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

”غزوہ تبوک کے سوا کسی اور غزوہ میں ایسا نہیں ہوا تھا، کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں، البتہ میں غزوہ بدر میں بھی شامل نہیں ہوا تھا، لیکن اس سے غیر حاضر رہنے والوں پر آنحضرت ﷺ نے خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا۔

[غزوہ تبوک میں] میری صورت حال یہ تھی، کہ میں کبھی بھی اتنا زیادہ قوی اور اس قدر آسودہ حال نہیں تھا، جس قدر اس موقع پر تھا۔ اس غزوہ کے موقع پر میں نے دو سواریاں جمع کر رکھی تھیں، جو کہ اس سے پیشتر میرے پاس کبھی جمع نہ ہوئیں تھیں۔

رسول اللہ ﷺ جب کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے، تو آپ ﷺ اس کے لیے ذومعنی الفاظ ❶ استعمال فرمایا کرتے تھے، لیکن اس غزوہ کے وقت [چونکہ] گرمی سخت تھی، سفر دراز اور راستہ بیابانی تھا اور دشمن کی تعداد کثیر تھی، اس لیے آپ ﷺ نے مسلمانوں کے لیے صورت حال کو واضح فرمادیا، تاکہ وہ اس کے مطابق تیاری کر لیں۔ آنحضرت ﷺ نے اس سمت کی [بھی] نشان دہی فرمادی، جس کی طرف آپ کا جانے کا ارادہ تھا۔

مسلمان رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کثیر تعداد میں تھے اور کسی رجسٹر میں ان کے نام درج نہ کیے گئے تھے۔“

کعب بن لؤی نے [مزید] بیان کیا: ”کوئی بھی شخص اگر اس غزوہ سے غائب رہتا، تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا، کہ اس کی غیر حاضری مخفی رہے گی، سوائے اس کے، کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو۔“

رسول اللہ ﷺ اس غزوہ کے لیے اس وقت نکلے، جب کہ پھل پک چکے تھے اور سائے دراز ہو چکے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے تیاری کی۔ میں بھی تیاری کرنے کا سوچتا رہا، لیکن میں نے کچھ بھی نہ کیا اور اپنے دل میں کہا: ”میں [کسی بھی وقت] تیاری کر سکتا ہوں۔“

یوں ہی وقت گزرتا رہا، لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ بھی ہو گئے۔ میں نے اس وقت تک کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ تیزی سے چلے گئے، اور غزوہ میں شرکت میرے لیے دور کی بات ہو گئی۔ میں یہی ارادہ کرتا رہا، کہ جاؤں اور انہیں پالوں۔ کاش! میں نے ایسا کر لیا

❶ یعنی ایسے الفاظ جن کے معانی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں۔

ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہ تھا۔

آنحضرت ﷺ کے تشریف لے جانے کے بعد، جب میں باہر نکلتا اور لوگوں میں گھومتا، تو مجھے دیکھ کر رنج ہوتا، کہ وہاں صرف دو ہی قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن پر تہمت نفاق تھی، اور دوسرے وہ کمزور لوگ، جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دے دیا تھا۔

تب تک پہنچنے تک رسول اللہ ﷺ نے میرا ذکر نہ فرمایا۔ تبوک میں، ایک مجلس میں، آنحضرت ﷺ نے استفسار فرمایا:

”مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟“

[کعب نے [یہ] کیا کیا؟]

بنو سلمہ کے ایک شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! حسن و جمال یا لباس پر غرور نے اس کو آنے نہیں دیا۔“

اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا: ”تم نے بری بات کہی ہے! اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! ہم ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتے۔“

رسول اللہ ﷺ خاموش رہے۔

کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ”جب مجھے معلوم ہوا، کہ آنحضرت ﷺ واپس تشریف لا رہے ہیں، تو مجھ پر فکر سوار ہوا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا، جس سے میں کل آنحضرت ﷺ کی فحشگی سے بچ سکوں۔ میں نے اس سلسلے میں اپنے گھر کے ہر عقل مند فرد سے مشورہ بھی کیا۔

جب مجھ سے یہ ذکر کیا گیا، کہ رسول اللہ ﷺ [مدینہ طیبہ کے] قریب آ چکے ہیں، تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا، کہ میں اپنے آپ کو کسی ایسی چیز کے ذریعہ سے نہیں بچا سکتا، جس میں جھوٹ ہو، چنانچہ میں نے سچی بات

کہنے کا پختہ عزم کر لیا۔

صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ تشریف لائے، آپ ﷺ کی عادت تھی، کہ جب سفر سے واپس پلٹتے، تو پہلے مسجد میں تشریف لاتے اور دو رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے لیے تشریف فرما ہوتے۔ جب آپ ﷺ [حسب عادت] ایسا کر چکے، تو پیچھے رہنے والے لوگ آ کر قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر بیان کرنے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد اسی (۱۰) سے کچھ اوپر تھی۔ آنحضرت ﷺ نے ان کے ظاہر کو قبول فرمایا، ان سے عہد لیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی اور ان کے باطن کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کیا۔

ان کے بعد میں آپ ﷺ کے روبرو حاضر ہوا، میں نے سلام عرض کیا، تو آپ ﷺ مسکرائے اور آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی، پھر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”آؤ [یعنی قریب ہو جاؤ]۔“

میں چل کر آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گیا، تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمْ تُكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟“

[تمہیں کس چیز نے پیچھے رکھا؟ کیا تم نے اپنی سواری خرید نہ رکھی تھی؟]

میں نے عرض کیا: ”کیوں نہیں [یعنی میں نے سواری خرید رکھی تھی]، اللہ تعالیٰ

کی قسم! اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی اور شخص کے پاس بیٹھا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی عذر

گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا۔ مجھے بات بنانے کا سلیقہ دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ

کی قسم! مجھے یقین ہے، کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ

کو راضی کر لوں گا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو مجھ سے ناراض کر دیں گے۔ اور

اگر میں نے آپ کے حضور سچی بات عرض کی، تو آپ کو مجھ پر خفگی ہوگی، لیکن ایسی بات

کرتے ہوئے مجھے اللہ تعالیٰ سے معافی کی پوری امید ہے۔

نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم! [پیچھے رہنے کے لیے] میرے پاس کوئی عذر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! آپ سے پیچھے رہتے وقت، میں اس قدر قوی اور آسودہ حال تھا، کہ اس سے پہلے کبھی ایسے نہیں تھا۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ.“

”اس نے یقیناً سچی بات بتلائی ہے، سو اٹھ جاؤ، یہاں تک، کہ تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ [خود ہی] فیصلہ فرمادیں۔“

میں اٹھا اور میرے پیچھے بنو مسلمہ کے کچھ لوگ دوڑے ہوئے آئے، اور مجھ سے کہنے لگے:

”ہمارے علم کے مطابق تم نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا۔ تم نے بڑی کوتاہی کی ہے، کہ رسول اللہ ﷺ کے روبرو کوئی ایسا عذر پیش نہیں کیا، جیسا کہ پیچھے رہنے والے [دیگر] لوگوں نے بیان کیا ہے۔ تمہارے گناہ کے لئے رسول اللہ ﷺ کا استغفار ہی کافی تھا۔“

اللہ تعالیٰ کی قسم! ان لوگوں نے مجھے اتنی ملامت کی، کہ میں نے واپس پلٹ کر اپنی تکذیب کا ارادہ کر لیا۔ [یعنی آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے سابقہ بیان کی تکذیب کر کے جھوٹا عذر پیش کر دوں]، پھر میں نے ان سے دریافت کیا: ”کیا کسی اور کو بھی میری والی صورت حال پیش آئی ہے؟“

انہوں نے بتلایا: ”ہاں، دو اشخاص نے وہی بات کہی ہے، جو تم نے کہی ہے، اور ان سے وہی کہا گیا ہے، جو تم سے کہا گیا ہے۔“

www.KitaboSunnat.com

میں نے پوچھا: ”وہ دونوں کون ہیں؟“

انہوں نے جواب دیا: ”مرارہ بن ربیع العمری اور ہلال بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہما۔“

انہوں نے میرے لیے دو ایسے اشخاص کا ذکر کیا، جو کہ غزوہ بدر میں شریک

ہوئے تھے اور میرے لیے ان میں نمونہ تھا۔

رسول اللہ ﷺ نے پیچھے رہنے والوں میں سے ہم تین کے ساتھ گفتگو سے منع فرما دیا۔ لوگ ہم سے دور ہو گئے اور وہ ہمارے ساتھ اس قدر بدل گئے، یہاں تک کہ میں نے زمین کو بھی اپنے لیے مختلف پایا، زمین وہ نہ رہی تھی، جس سے میں آشنا تھا۔ ہم اسی حالت میں پچاس روز رہے۔

میرے دو ساتھیوں نے تو ہمت ہار دی اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے روتے رہے۔ میں تینوں میں سے نسبتاً جوان اور طاقت ور تھا، میں باہر نکلتا اور مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا اور بازاروں میں گھومتا، [لیکن] مجھ سے کوئی گفتگو نہ کرتا۔ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آپ نماز کے بعد اپنی مجلس میں تشریف فرمائے ہوتے، تو میں سلام عرض کرنے کے بعد اپنے دل میں کہتا: ”کیا آپ ﷺ نے میرے سلام کا جواب دینے کی خاطر اپنے لبوں کی حرکت دی ہے یا نہیں؟“

پھر میں آپ ﷺ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا اور آپ کو نکلیوں سے دیکھتا رہتا، جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا، تو آپ ﷺ میری طرف توجہ فرماتے اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا، تو آپ ﷺ رخ مبارک کو پھیر لیتے۔

آخر جب لوگوں کی یہ بے رخی دراز ہوتی گئی، تو میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی طرف گیا اور اس کی دیوار پر چڑھ گیا۔ وہ میرے پچازاد بھائی اور لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے تھے۔ میں نے انہیں سلام کہا۔

اللہ تعالیٰ کی قسم! انہوں نے میرے سلام کا جواب [تک] نہ دیا۔ میں نے کہا: ”اے ابو قتادہ! میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں! کیا تمہیں میرے بارے میں اس بات کا علم ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں؟“

وہ چپ رہے، میں نے اپنا سوال دہرایا اور انہیں قسم دے کر دریافت کیا، لیکن وہ [پھر بھی] خاموش رہے۔ میں نے پھر سوال دہرایا، انہیں قسم دے کر پوچھا، تو انہوں نے کہا: ”اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں۔“

میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر [باہر آ گیا]۔

انہوں نے [مزید] بیان کیا: ”میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، کہ شام کا ایک کاشت کار، جو غلہ بیچنے مدینہ آیا تھا، کہہ رہا تھا: ”کعب بن مالک تک پہنچانے میں میری راہنمائی کون کرے گا؟“

لوگوں نے میری طرف اشارہ کرنا شروع کیا، تو وہ میری طرف آیا اور مجھے شاہِ غسان کا ایک خط دیا، جس میں تھا:

”اما بعد، بلاشبہ مجھے معلوم ہوا ہے، کہ تمہارے صاحب [یعنی رسول کریم ﷺ] نے تم پر زیادتی کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ضائع ہونے کی جگہ میں نہیں رکھا [یعنی ایسی جگہ رہنے کا پابند نہیں فرمایا]۔“ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔“

جب میں نے اس کو پڑھا، تو میں نے کہا: یہ بھی امتحان ہی کا حصہ ہے۔“

میں اس کو لے کر تنور کی طرف گیا اور اسے جلا دیا۔

جب ان پچاس دنوں میں سے چالیس دن گزرے، تو رسول اللہ ﷺ کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہنے لگا: ”بلاشبہ رسول اللہ ﷺ نے تمہیں حکم دیا ہے، کہ تم اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔“

میں نے دریافت کیا: ”کیا میں اس کو طلاق دے دوں، یا مجھے کیا کرنا ہے؟“

اس [قاصد] نے کہا: ”نہیں، صرف اس سے جدا ہو جاؤ اور اس کے قریب نہیں جانا۔“



میں نے اپنی اہلیہ سے کہا: ”اپنے میکے چلی جاؤ اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ کرنے تک وہیں رہو۔“

اسی طرح دس راتیں اور گزر گئیں اور جب سے رسول اللہ ﷺ نے ہم سے گفتگو کی ممانعت فرمائی تھی، اس کی پچاس راتیں پوری ہو گئیں۔ پچاسویں رات کی صبح کو جب میں نماز فجر پڑھ چکا اور میں اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر اس حالت میں بیٹھا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کہ: میرا دم گھٹا جا رہا تھا اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود مجھ پر تنگ ہو چکی تھی، کہ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی، جو جبل سلع پر چڑھ کر بآواز بلند کہہ رہا تھا:

”يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ! ابْشِرْ.“

[اے کعب بن مالک! تمہیں بشارت ہو۔]

انہوں نے بیان کیا: ”[یہ سنتے ہی] میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا،

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

www.pakvirtuallibrary.com

کہ مصیبت کے چھٹ جانے کا وقت آچکا ہے۔

نماز فجر کے بعد رسول اللہ ﷺ نے بارگاہِ الہی میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا، تو لوگ ہمیں بشارت دینے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ میرے دونوں ساتھیوں کی طرف [بھی] خوشخبری سنانے والے گئے۔ ایک شخص نے اپنے گھوڑوں کو میری طرف سرپٹ دوڑایا۔ بنو اسلم قبیلہ کے ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر آواز دی۔ اور آواز [مجھ تک پہنچنے میں] گھوڑے سے زیادہ تیز تھی۔ جب یہ صاحب آواز مجھے خوش خبری دینے آئے، تو میں نے ان کے بشارت سنانے کی خوشی میں اپنے دونوں کپڑے اتار کر انہیں پہنا دیئے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قسم! اس دن میرے پاس ان کے سوا کوئی اور چیز نہ تھی۔ پھر میں نے دو کپڑے مانگ کر پہن لئے، اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضری کی خاطر روانہ ہوا۔ لوگ جوق در جوق مجھ سے ملاقات کرتے جاتے اور قبولیت

توبہ کی مبارک باد دیتے۔ وہ کہہ رہے تھے: ”بارگاہِ الہی میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔“
حضرت کعب بنی اللہؓ نے [مزید] بیان کیا: ”یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا۔
رسول اللہ ﷺ تشریف فرما تھے۔ آپ کے گرد و پیش لوگ تھے۔ جب میں نے سلام
عرض کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اور آپ کا چہرہ خوشی اور مسرت سے دمک رہا تھا:
”أُبَشِّرُ بِخَيْرٍ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتِكَ أُمُّكَ.“

[اس دن کی تمہیں بشارت ہو، جو کہ تمہاری ماں کے تمہیں جنم دینے سے
لے کر آج تک کے تمام دنوں میں سے تمہارے لیے بہترین ہے۔]
انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے عرض کیا:

”أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟“

[یا رسول اللہ! کیا یہ [بشارت] آپ کی طرف سے ہے، یا اللہ تعالیٰ کی
جانب سے؟]

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

آپ ﷺ نے جواب دیا:

”لَا، بَلْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ.“

[نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے]

رسول اللہ ﷺ جب خوش ہوتے، تو آپ کا چہرہ اس طرح روشن ہو جاتا تھا،
جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور ہم آپ کے چہرے سے آپ کی مسرت بھانپ لیتے تھے۔

پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا، تو میں نے عرض کیا:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً
إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ.“

[یا رسول اللہ! بلاشبہ میں اپنی توبہ [کی قبولیت] کی خوشی میں اپنے مال سے
اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ کے حق میں دست بردار ہو رہا ہوں۔]

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ.“

[اپنا کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے]

میں نے عرض کیا:

”فَإِنِّي أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْرٍ.“

[میں اپنا خیر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا]

پھر میں نے عرض کیا:

”يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا نَجَانِي بِالصِّدْقِ، وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي

أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيْتُ.“

[یا رسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے اور

بلاشبہ میری توبہ میں سے یہ بھی ہے، کہ میں جب تک زندہ رہوں گا، سچ

کے سوا اور کچھ نہ بولوں گا۔]

سوا اللہ تعالیٰ کی قسم! جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ کے روبرو یہ عہد کیا تھا،

میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا، جسے اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی بنا پر اس قدر نوازا ہو،

جس قدر کہ انہوں نے مجھے نوازا۔ رسول اللہ ﷺ کے حضور عہد کرنے سے لے کر

آج تک میں نے جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا اور مجھے امید ہے، کہ اللہ تعالیٰ بقیہ زندگی

میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے [ہمارے بارے میں] اپنے

رسول ﷺ پر یہ آیات نازل فرمائیں:

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ

اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ

مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ

الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا صَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ
وَصَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ
تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿۱﴾

[یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی ﷺ، مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول فرمائی، جنہوں نے مشکل وقت میں آنحضرت ﷺ کی پیروی کی، جب کہ قریب تھا، کہ ایک گروہ کے دلوں میں کجی آجائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہ ان پر ہی بہت شفقت فرمانے والے، نہایت مہربان ہیں۔ اور ان تینوں کی بھی، جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہوگئی اور خود ان کی جانیں [بھی] ان پر تنگ ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا، کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر ان کی جناب کے علاوہ اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے، انہوں [اللہ تعالیٰ] نے ان کی جانب توجہ فرمائی، تاکہ وہ توبہ کر لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ]

فَوَاللَّهِ! مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي
لِلْإِسْلَامِ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ
لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ، فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا، فَإِنَّ اللَّهَ
قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرًّا مَا قَالَ لِأَحَدٍ، فَقَالَ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَتُعَرِّضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ وَمَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لَتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ ①

”اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایت اسلام ملنے کے بعد، میری نظر میں رسول اللہ ﷺ کے روبرو اس سچ بولنے سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوا، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اپنے آپ کو ایسے ہلاک نہ کیا، جیسے کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے متعلق اس قدر شدید وعید فرمائی، کہ کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

[ترجمہ: جب تم لوگ ان کے پاس واپس آؤ گے، تو وہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، تاکہ تم انہیں کچھ نہ کہو، سو تم ان سے اعراض کرو، بلاشبہ وہ ناپاک ہیں، اور ان کے کرتوتوں کے بدلے میں ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ وہ تمہارے لیے قسمیں کھائیں گے، تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی [بھی] ہو گئے، تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے]۔“

قصہ سے معلوم ہونے والی باتیں

اس واقعہ سے معلوم ہونے والی باتوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

① سورة التوبة/ الآياتان ۹۵-۹۶.

② متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قول الله عزوجل: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا)، جزء من رقم الحديث ۴۴۱۸، ۱۱۳/۸-۱۱۶۔
وصحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُم، جزء من رقم الحديث ۵۳- (۲۷۶۹)، ۲۱۲۰/۴-۲۱۲۸. الفاظ حديث صحيح البخاري کے ہیں۔

۱: جب حضرت کعب اور ان کے دو ساتھیوں رضی اللہ عنہم نے جھوٹ کو سے گریز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو سچ بولا، تو اللہ کریم نے ان پر یہ عنایت فرمائی، کہ ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا:

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

[پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب توجہ فرمائی، تاکہ وہ توبہ کر لیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے نہایت مہربان ہیں]

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب رضی اللہ عنہ کو اس عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا:

”أَبَشِّرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدْتِكَ أُمَّكَ.“

[اس دن کی تمہیں بشارت ہو، جو کہ تمہاری ماں کے تمہیں جنم دینے کے دن سے لے کر آج تک کے تمام دنوں سے تمہارے لیے بہترین ہے]

۲: جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جھوٹ بولا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ دو آیتیں نازل فرمائیں، جن میں درج ذیل پانچ دنیوی اور اخروی سزاؤں کا ذکر فرمایا ہے:

۱: ان کے ساتھ قطع تعلق کا حکم:

اللہ جل جلالہ نے فرمایا: ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ [ان سے اعراض کرو]۔ علامہ شوکانی اپنی تفسیر میں رقم طراز ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے ان سے اعراض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، کہ ان کو چھوڑ دو اور ان سے قطع تعلق کر لو۔ اس سے مقصود ان سے راضی ہونا، یا ان کے گناہوں سے درگزر کرنا نہیں۔“ ❶

❶ یہ دو آیتیں اور ان کا ترجمہ کتاب ہذا کے ص ۷۸-۷۷ میں ملاحظہ فرمائیے۔

❷ فتح القدير ۱۲ / ۵۷۴؛ نیز ملاحظہ ہو: التفسير الكبير ۱۶ / ۱۶۴؛ و تفسیر القرطبي ۱۸ / ۲۳۱؛

و تفسیر أبي السعود ۱۴ / ۹۴۔

ب: ان پر ناپاک ہونے کا حکم

اللہ عزوجل نے فرمایا: ﴿إِنَّهُمْ رَجَسٌ﴾ [بلاشبہ وہ ناپاک ہیں]۔ حافظ ابن کثیر اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”یعنی ان کے باطن اور اعتقادات خبیث ہیں۔“ ●

ج: جہنم کا ٹھکانا ہونا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمُ﴾ [اور ان کا ٹھکانا جہنم ہے] علامہ قرطبی اس کی تفسیر میں رقم طراز ہیں: ”یعنی ان کی منزل اور جگہ [جہنم ہے]۔“ ●

د: اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی نہ ہونا

اللہ عزوجل نے فرمایا:

﴿فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ
الْفَاسِقِينَ﴾

[سو اگر تم ان سے راضی [بھی] ہو گئے، تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے]

اس کا مقصود یہ ہے۔ جیسا کہ علامہ شوکانی نے بیان کیا ہے، کہ اہل ایمان کو ان سے راضی ہونے سے روکا گیا ہے، کیونکہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش نہ ہوں۔ ایمان والے ان سے راضی نہیں ہوتے۔ ●

● تفسیر ابن کثیر ۱۲ / ۴۲۰۔

● تفسیر القرطبی ۱۸ / ۲۳۱۔

● ملاحظہ ہو: فتح القلندر ۱۲ / ۵۷۴؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر أبي السعود ۱۴ / ۹۴-۹۵؛ روح المعانی

ہ: ان کو فاسق قرار دینا

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَإِنْ تَرَوْهُوَ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾

[سوا اگر تم ان سے راضی [بھی] ہو گئے، تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے]

علامہ الوسیٰ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ضمیر کی بجائے [فاسقوں] کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ❶ تاکہ ان کے بارے میں یہ نشان دہی کی جائے، کہ وہ اطاعت [الہیہ] سے نکل گئے ہیں، اور یہی بات ان پر نازل ہونے والے عذابوں کا سبب بنی۔ ❷

❸: حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جھوٹ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی نوازشات کا تقابل جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کرتے ہوئے بیان فرمایا:

”اللہ تعالیٰ کی قسم! اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہدایتِ اسلام ملنے کے بعد، میری نظر میں رسول اللہ ﷺ کے روبرو اس سچ بولنے سے بڑھ کر مجھ پر کوئی احسان نہیں ہوا، کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا اور ایسے ہلاک نہیں ہوا، جیسے کہ جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے۔ وحی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے متعلق اس قدر شدید وعید فرمائی، کہ اتنی کسی دوسرے کے لیے نہیں فرمائی ہوگی۔“ ❹

❶ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ [اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوتے]، بلکہ یہ فرمایا [اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتے]

❷ ملاحظہ ہو: روح المعانی ۴/۱۱۱۔

❸ اس بارے میں نازل کردہ دو آیتیں اور ان کا ترجمہ اس کتاب کے ص ۷۸-۷۷ میں ملاحظہ فرمائیے۔

حافظ ابن حجر نے اس قصے کے فوائد بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”اس میں سچ کا فائدہ اور جھوٹ کے انجام کی نحوست [کا بیان] ہے۔“^①

اے اللہ کریم! ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائیے اور اس کے ثمرات ہمارے نصیب میں فرمائیے، جھوٹ اور اس کے برے اثرات سے ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ فرمادیتے۔ انک سمیع معجیب۔



مبحث سوئم

جھوٹ کی اقسام

تمہید

جھوٹ کی متعدد اقسام اور شکلیں ہیں۔ ان میں سے درج ذیل چودہ اقسام کے متعلق اس مقام پر توفیق الہی سے گفتگو کی جا رہی ہے:

۱: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا۔

۲: نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنا۔

۳: جھوٹا خواب بیان کرنا۔

۴: اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا۔

۵: بلا دئے پالینے کا اظہار کرنا۔

۶: تہمت لگانا۔

۷: جھوٹی گواہی دینا۔

۸: مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا۔

۹: تجارت میں جھوٹ سے کام لینا۔

۱۰: مزاحاً جھوٹ بولنا۔

۱۱: لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا۔

۱۲: ازراہ تکلف جھوٹ بولنا۔

۱۳: مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا۔

۱۴: ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا۔

1

اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا

اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا، جو کہ انہوں نے نہ فرمائی ہو، جھوٹ کی بدترین قسم ہے۔ متعدد آیات اور احادیث میں اس قسم کے جھوٹ کی سنگینی، اس کے بولنے والے کے بُرے انجام اور اس کی مختلف شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ توفیق الہی سے اس بارے میں قدرے تفصیلی گفتگو درج ذیل تین عنوانات کے تحت پیش کی جا رہی ہے:

ا: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی قباحت

ب: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کا بُرا انجام

ج: اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی شکلیں

۱۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی قباحت:

اس سنگین گناہ کی برائی پر دلالت کرنے والی متعدد آیات میں سے صرف تین کے حوالے سے ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

ا: سب سے بڑا ظلم:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ ❶

[پس اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے؟]

قاضی ابوسعود نے آیت شریفہ کی تفسیر میں لکھا ہے: ”معنی یہ ہے، کہ [ایسا شخص

ہر ظالم سے بڑا ظالم ہے۔“ ❷

❶ سورة الكهف، الآية ۱۵.

❷ تفسیر ابی السعود ۲۱۰/۱۵.

ایک دوسرے مقام پر قاضی رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر کرتے ہیں، کہ اگرچہ اس جملے کا لفظی معنی تو یہ ہے، کہ اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں، لیکن اس میں یہ بات بھی ہے کہ: ”اس ایسا ظالم کوئی نہیں۔“ کیوں کہ جب کہا جاتا ہے کہ: ”فلاں سے زیادہ معزز کون ہے؟“ یا ”اس سے زیادہ فضیلت والا کوئی نہیں“، تو اس سے حتمی طور پر مراد یہ ہوتا ہے، کہ وہ ہر ذی عزت سے زیادہ معزز ہے، اور ہر صاحب فضل سے زیادہ فضیلت والا ہے۔“ ●

شیخ قاسمی نے اپنی تفسیر میں قلم بند کیا ہے: ”ظلم و کفر میں اس کے برابر کوئی نہیں۔“ ●

۲۔ غیر مومنوں کا شیوہ:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ أُولَئِكَ

هُمُ الْكٰذِبُونَ﴾ ●

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

[بلاشبہ جھوٹ تو وہ لوگ گھڑتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں

لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔]

علامہ زحشری نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر کیا ہے: ”اس میں ان [مشرکوں] کی اس بات کی تردید کی گئی ہے، کہ..... معاذ اللہ..... آپ ﷺ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے۔ ایسا تو وہ کرتا ہے، جو بے ایمان ہو، کیوں کہ وہ اپنی سزا سے بے خوف ہوتا ہے۔“ ●

حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے: ”پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا،

● ملاحظہ ہو: تفسیر أبي السعود ۱۹۶/۴

● تفسیر القاسمی ۱۳/۱۱؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر التحرير والتنوير ۲۷۵/۱۵

● ملاحظہ ہو: الکشاف ۴۲۹/۲

● سورة النحل / الآية ۱۰۵

کہ ان کے رسول ﷺ مفتری اور کذاب نہیں، کیوں کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ پر جھوٹ باندھنا، تو مخلوق میں سے بدترین لوگوں کا کام ہے، جو کہ کافر اور ملحد لوگوں میں سے اپنی دروغ گوئی کے لیے مشہور ہوتے ہیں اور [آیات الہیہ پر ایمان نہیں لاتے] اور محمد رسول اللہ ﷺ تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ نیک اور علم و عمل اور ایمان و یقین میں کامل ترین تھے۔ اپنی قوم میں صادق کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتے تھے، ان کے ہاں آپ ﷺ کی صداقت اس قدر مسلمہ تھی، کہ انہیں [الأمین محمد ﷺ] کے لقب کے ساتھ پکارا جاتا تھا۔“ ❶

۳: سنگین ترین گناہ:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿أَنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ ❷

[آپ دیکھیے، کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور صریح

گناہ کے طور پر یہی کافی ہے۔]

قاضی ابوسعود تفسیر آیت میں تحریر کرتے ہیں: ”﴿كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾: معنی

یہ ہے، کہ تمام گناہ گار کافروں سے بدترین گناہ گار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی

ہے، یا [اس سے مراد یہ ہے کہ] انہیں شدید ترین سزاؤں کا مستحق ٹھہرانے کے لیے تہا

یہی ایک گناہ کافی ہے۔“ ❸

❶ ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۶۴۷/۲۔

❷ سورة النساء/الآية ۵۰۔

❸ تفسیر أبي المعود ۱۸۸/۲؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمی ۲۳۴/۵-۲۳۵۔

ب۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا بُرا انجام

قرآن کریم میں اس سنگین جھوٹ کے بُرے انجام کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں تین باتیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱: فلاح سے محرومی:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ ❶

[بلاشبہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔]

قاضی ابوسعود نے اس آیت کی تفسیر میں قلم بند کیا ہے: ”یعنی نہ تو وہ مصیبت سے بچیں گے اور نہ ہی کبھی مقصود کو حاصل کریں گے۔“ ❷

علامہ شوکانی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ”[اللہ تعالیٰ پر] ہر افترا پرداز کا یہی حال ہو

گا۔“ ❸

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

۲: اللہ تعالیٰ کی لعنت:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ❹

[اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، جو اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتا ہے؟ ایسے

❶ سورہ یونس۔ علیہ السلام۔ / الآیة ۶۹۔

❷ تفسیر أبي السعود ۱/ ۶۳/ ۴؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمی ۶۴/ ۹۔

❸ سورہ ہود۔ علیہ السلام۔ / الآیة ۱۸۔

❹ فتح القدیر ۲/ ۶۶۷۔

لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے اور گواہان کہیں گے: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ آگاہ رہیے! ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔]

شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں تحریر کیا ہے: اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں کہ [اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم کوئی نہیں] اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہر جھوٹ بولنے والا شامل ہے اور ایسے لوگ تمام انسانوں میں سے سب سے بڑے ظالم ہیں۔ [یہ لوگ اپنے رب کے روبرو پیش کیے جائیں گے] تاکہ وہ انہیں ان کے ظلم کی سزا دیں۔ جب وہ انہیں شدید سزا دینے کا فیصلہ فرمائیں گے، تو [گواہان کہیں گے] یعنی وہ جو کہ ان کے افترا باندھنے اور جھوٹ بولنے کی گواہی دیں گے، کہ [یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ آگاہ رہیے! ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے] یعنی دائمی لعنت، کیونکہ [اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنے کی بنا پر] ظلم ان کا وصف لازم بن گیا، [اس لیے ان کے عذاب میں] تخفیف کی کوئی گنجائش نہیں۔ ❶

۳: روسیاء اور جہنم میں داخلہ:

اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُاْ عَلٰى اللّٰهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ اَلَيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْوٰى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ﴾ ❷

[اور آپ روز قیامت ان لوگوں کو دیکھیں گے، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کی، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانا نہیں؟]

آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ سعدی نے قلم بند کیا ہے: اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی روز قیامت

❷ سورة الزمر، الآية ۶۰.

❶ ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۳۹۸.

ذلت و رسوائی کے متعلق بتلا رہے ہیں، کہ جنہوں نے ان پر جھوٹ باندھا۔ اس دن ان کے چہرے تاریک رات کی طرح سیاہ ہوں گے اور اسی بنا پر میدانِ محشر میں جمع ہونے والے لوگ انہیں پہچان لیں گے۔

جس طرح انہوں نے حق کے چہرے کو، جو کہ روزِ روشن کی طرح چمک دار اور واضح ہوتا ہے، جھوٹ کی سیاہی سے داغ دار کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس کرتوت کی قسم ہی سے سزا دیتے ہوئے ان کے چہروں کو سیاہ فرمادیں گے۔ سوان کے لیے روسیاہی اور جہنم میں شدید عذاب ہوگا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: [کیا جہنم میں ان کے لیے ٹھکانا نہیں؟] جو حق سے اور اپنے رب کی عبادت سے [تکبر کرتے ہیں] اور اللہ تعالیٰ پر افترا باندھتے ہیں؟

کیوں نہیں؟ واللہ! اس میں تو سزا، ذلت اور ناراضی ہے اور یہ سب کچھ متکبرین کے حصہ میں خوب آئے گا اور ان سے خوب انتقام لیا جائے گا۔^۱
اللہ کریم اپنے پر افترا اور اس کے انجام بد سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

ج۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی شکلیں:

اللہ تعالیٰ پر افترا باندھنے کی متعدد صورتیں ہیں۔ شیخ سعدی رقم طراز ہیں: اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، یہ کہنا، کہ ان کا کوئی بیٹا ہے، یا ان کی بیوی ہے، ان کی شان کے منافی بات کہنا، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنا، شریعت الہیہ میں وہ بات داخل کرنا، جو اس میں نہ ہو اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا، یہ ساری باتیں ان پر جھوٹ باندھنے کے زمرہ میں داخل ہیں۔^۲

ذیل میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی تین شکلوں کے بارے میں توفیق الہی

۱ ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۷۹۵۔

۲ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ص ۷۹۵۔

سے قدرے تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے:

۱: اللہ تعالیٰ پر کسی کو اپنا بیٹا بنانے کا افتراء:

قرآن و سنت کی متعدد نصوص میں اس جھوٹ کا پول کھولا گیا ہے اور ایسا کرنے والوں کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ذیل میں تین نصوص ملاحظہ فرمائیے:

۱: اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں:

﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَمَا فِي الْاَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَنْتَقُوْلُوْنَ عَلٰى
اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ. قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰى اللّٰهِ الْكُذِبَ لَا
يُقْلِحُوْنَ. مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنذِرُهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيْدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ﴾ ۱

[انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ نے [اپنے لیے] لڑکا بنایا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہیں، وہ کامل و بے نیاز ہیں۔ آسمانوں اور زمین کی ہر ہر چیز ان ہی کی ملکیت ہے۔ تمہارے اس [دعوئی] کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو، جس کا تمہیں علم نہیں؟ آپ کہہ دیجیے، کہ بلاشبہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، کامیاب نہیں ہوں گے۔ دنیا میں معمولی مزہ ہے [یہ وہ کر لیں]، پھر انہیں ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، تو پھر ہم انہیں ان کے کفر کی وجہ سے سخت عذاب چکھائیں گے۔]

ان آیات کریمہ کی تفسیر میں شیخ سعدی نے تحریر کیا ہے: اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے اپنے اوپر بہتان کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: ﴿قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ انہوں

نے کہا، کہ اللہ تعالیٰ نے [اپنے لیے] بیٹا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس سے بلند و بالا کرتے ہوئے فرمایا: ﴿سُبْحٰنَهُ﴾ یعنی یہ ظالم لوگ ان کی طرف جن عیوب کی نسبت کرتے ہیں، وہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ثبوت کے لیے متعدد براہین بیان فرمائے ہیں۔

برہان اول: ارشاد باری تعالیٰ ﴿هُوَ الْعَنِيُّ﴾ • ہر قسم کی بے نیازی ان ہی میں ہے۔ ہر پہلو اور ہر اعتبار سے وہ کامل غنی ہیں اور جب وہ ہر اعتبار سے بے نیاز ہیں، تو انہوں نے بیٹا کس مقصد کے لیے بنانا ہے؟

برہان ثانی: ارشاد باری تعالیٰ ﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾ • یہ جملہ آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، کوئی چیز بھی اس سے باہر نہیں۔ اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، غلام اور ملکیت ہیں، اور جو چیزیں ایسی ہوں، وہ اپنے خالق، آقا اور مالک کا بیٹا کس طرح بن سکتی ہیں، کیوں کہ بیٹا تو اپنے والد کی جنس سے ہوتا ہے، اس کی مخلوق یا ملکیت نہیں ہوتا۔

برہان ثالث: ارشاد باری تعالیٰ ﴿اِنَّ عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ بَيِّنًا﴾ • یعنی کیا تمہارے پاس اس بات کی کوئی حجت یا دلیل ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹا بنایا؟ اور اگر ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل ہوتی، تو وہ اس کو ضرور ظاہر کرتے۔

پس جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنے کا چیلنج دیا، اور دلیل پیش کرنے سے ان کی بے بسی کو واضح فرما دیا، تو یہ حقیقت واضح ہو گئی، کہ ان کا دعویٰ باطل ہے اور انہوں نے یہ بات بلا علم کہی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

• ترجمہ: ”وہ ہی کامل بے نیاز ہیں۔“

• ترجمہ: ”آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ان ہی کی ملکیت ہے۔“

• ترجمہ: ”تمہارے پاس اس (دعویٰ) کی کوئی دلیل نہیں۔“

﴿أَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ • اور بلاشبہ ایسا کرنا سنگین ترین ممنوعہ باتوں میں سے ہے۔ •

ب: اس بات کی سنگینی اور تردید کی غرض سے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا. أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا. لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ •

[اور انہوں نے کہا، کہ رحمن نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے۔ بلاشبہ تم نے [یہ کہہ کر] بہت بھاری گناہ کیا ہے۔ قریب ہے، کہ اس کے اثر سے آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں، اس لیے کہ وہ لوگ رحمن کا لڑکا ثابت کرتے ہیں۔ رحمن کے لیے یہ مناسب ہی نہیں ہے، کہ وہ اپنے لیے کسی کو لڑکا بنائیں۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں، وہ سب رحمن کے سامنے بندے کی حیثیت سے حاضر ہوں گے۔ انہوں نے ان سب کو خوب اچھی طرح گن رکھا ہے اور سب کے سب روز قیامت ان کے روبرو تنہا آئیں گے۔]

شیخ سعدی نے اپنی تفسیر میں تحریر کیا ہے: ”اس میں [حق سے] عناد رکھنے والے اور اس کا انکار کرنے والے لوگوں کے قول کی خرابی اور بُرائی کا بیان ہے، جو یہ غلط گمان رکھتے ہیں، کہ رحمن نے بیٹا بنایا ہے، جیسا کہ نصرانیوں نے کہا: [مسیح - عَلَیْہِ السَّلَام]۔

• ترجمہ: ”کیا تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ بات لگاتے ہو، جس کا تمہیں علم نہیں؟“

• سورة مریم، الآيات ۸۸-۹۵.

• ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۳۸۶-۳۸۷.

اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں]، یہودیوں نے کہا [عزیر۔ عَلِيٌّ]۔ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں] اور مشرکوں نے کہا: [فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں]۔ اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی باتوں سے بلند و بالا ہیں۔“ ❶

شیخ قاسمی لکھتے ہیں: ﴿لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا﴾ ❶: یعنی بہت بُری [بات]۔ ان کی اس غلط بات کی تردید کرتے ہوئے اور اس کی غلطی کو بیان کرتے ہوئے صیغہ غائب ❷ کے استعمال میں اللہ تعالیٰ کی شدید ناراضی کا اظہار ہے، اور اس سے ان کی غایت درجہ کی مذمت ٹپکتی ہے اور ان [لوگوں] پر یہ حکم چسپاں ہوتا ہے، کہ وہ شرم و حیا سے عاری ہونے اور جہالت میں انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، کہ مقام ربانی کی توحید پر غیرت کے سبب قریب ہے، کہ آسمان پھٹ جائیں، زمین میں شگاف پڑ جائے اور پہاڑ پاش پاش ہو جائیں، کیوں کہ یہ تو ایسی بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں اور اس بات کے ثابت ہونے کا معاذ اللہ معنی یہ ہے، کہ وہ محتاج ہیں، ان کا کوئی ہم سر ہے اور وہ فنا ہو جائیں گے۔ ❸

ج: امام مسلم نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”جب روزِ قیامت ہوگا، تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا:

”ہر گروہ کے لوگ اس کے پیچھے جائیں، جس کی وہ عبادت کیا

❶ تفسیر السعدی ص ۵۳۵۔

❷ ترجمہ: ”بلاشبہ تم نے بہت سنگین گناہ کیا ہے۔“

❸ اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا﴾ [اور انہوں نے کہا کہ رحمن نے بیٹا بنایا] اور ﴿أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [یہ کہ انہوں نے رحمن کا بیٹا ثابت کیا] کی طرف اشارہ ہے۔

❹ ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمی ۱۱/۱۴۸-۱۴۹۔

کرتے تھے۔“

اللہ سبحانہ کے سوا، جس کسی کی..... بتوں اور تھانوں میں سے..... عبادت کی جاتی تھی، وہ سب دوزخ میں گر جائیں گے۔ ان میں سے کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے نیک، بُرے اور بقایا اہل کتاب رہ جائیں گے۔ پھر یہود کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا: ”تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟“

وہ کہیں گے: ”ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر..... علیہ السلام..... کی عبادت کرتے تھے۔“ تو [ان سے] کہا جائے گا: ”تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بیوی اور بیٹا نہیں بنایا۔ [اب] تم کیا چاہتے ہو؟“

وہ کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں [پانی] پلا دیجیے۔“ پس انہیں اشارہ کیا جائے گا: ”تم [پینے کے لیے] آگے نہیں بڑھو گے؟“ پس انہیں آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جو کہ سراب کی مانند ہوگی، جس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا، سو وہ آگ میں گر جائیں گے۔

پھر نصاریٰ کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا: ”تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟“

وہ جواب دیں گے: ”ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے مسیح..... علیہ السلام..... کی عبادت کیا کرتے تھے۔“ تو ان سے کہا جائے گا: ”تم نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ نے نہ تو کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ ہی بیٹا۔“

پھر ان سے دریافت کیا جائے گا: ”[اب] تم کیا چاہتے ہو؟“ تو وہ جواب میں کہیں گے: ”اے ہمارے رب! ہمیں پیاس لگی ہے! ہمیں [پانی] پلا دیجیے۔“

آپ ﷺ نے بیان فرمایا: ”انہیں اشارہ کیا جائے گا: ”تم [پینے کی خاطر] آگے نہیں بڑھو گے؟“

پس انہیں آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، جو کہ سراب کی مانند ہوگی، اس کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا، پس وہ آگ میں گر جائیں گے۔“ • الحدیث

اس حدیث شریف میں واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے قول [عزیر..... ﷺ..... اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں]، اور نصرائیوں کے قول [اسح..... ﷺ..... اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں]۔ دونوں کو جھوٹ قرار دیا ہے۔ مزید برآں ان دونوں قسم کے جھوٹ کہنے والوں کا بُرا انجام بھی اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔

اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کہ انہوں نے اہل اسلام کو ان دونوں قسم کے جھوٹوں سے اپنی رحمت سے محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کریم اُمت کو باقی تمام اقسام کے جھوٹ سے بھی محفوظ فرمادیں۔ اِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ۔

۲: خود ستائی کی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت:

اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا:

﴿الْم تَر إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا. أُنظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ كَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ •

[کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، جو خود ہی اپنی ستائش کرتے ہیں۔ بلکہ [اصل بات تو یہ ہے کہ] اللہ تعالیٰ جسے چاہیں، پاکیزہ

• صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرویة، جزء من رقم الحدیث ۳۰۲۔

(۱۸۳)، ۱/ ۱۶۷-۱۶۸۔

• سورة النساء، الآيات ۴۹-۵۰۔

کرتے ہیں، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ پر موجود دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے، کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں اور ان کے صریح گناہ کے طور پر یہی بات کافی ہے۔]

شیخ سید محمد رشید رضا اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ﴿أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَيَّ اللَّهُ الْكُذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾ یعنی اے رسول ﷺ آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، کہ خود ہی اپنی ستائش کر رہے ہیں۔ وہ اپنے زعم میں اللہ تعالیٰ کی مقرب قوم، ان کے بیٹے اور محبوب ہیں اور وہ یہ سمجھے بیٹھے ہیں، کہ وہ ان کے ساتھ ایسا امتیازی معاملہ فرمائیں گے، جو کہ باقی ماندہ مخلوق کے ساتھ ان کے سلوک سے مختلف ہوگا۔

شیخ سعدی رقم طراز ہیں: ”اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿أَنْظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَيَّ اللَّهُ الْكُذِبَ﴾: آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں [یعنی وہ یہ جھوٹ خود اپنی ستائش کر کے اللہ تعالیٰ پر باندھتے ہیں، کیوں کہ ان کی اس خود ستائش کے پس پردہ یہ بات ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے، کہ جس طریقے پر وہ ہیں، وہ حق ہے اور جس پر اہل ایمان ہیں، وہ باطل ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر حقائق کو یکسر تبدیل کر دینا ہے، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا﴾: اور ان کے صریح گناہ کے طور پر یہی بات کافی ہے [یعنی یہ ظاہر اور کھلا گناہ ہے، جو سخت سزا اور دردناک عذاب کا موجب ہے۔“

① ملاحظہ ہو: تفسیر المنار ۱/۵۴۱۵ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۱/۵۶۱۱ و تفسیر القاسمی

۳: اپنی طرف سے حلت و حرمت:

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس سنگین جھوٹ کی مذمت بیان فرمائی ہے، ان میں سے دو کے حوالے سے ذیل میں تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ •

[اور] دیکھو! ایسا نہ کرو، کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے، بے دھڑک نکال دیا کرو اور حکم لگا دو، کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کرنا ہے اور (یاد رکھو) جو لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا پردازیاں کرتے ہیں، وہ فلاح پانے والے نہیں، [یہ بات] بہت معمولی فائدہ ہے، اور [آخر کار] ان ہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔]

قاضی ابوسعود اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَ هَذَا حَرَامٌ﴾ یعنی اپنی زبانوں سے جھوٹ بول کر اور اس کو سننے والے کے لیے مزین اور خوب صورت کر کے حلت و حرمت کا حکم نہ لگاؤ، ﴿لِنَفْسِنَا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ کیونکہ حلت و حرمت کا حکم تو صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور جب تم حلت و حرمت کا حکم اپنی طرف سے لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف حلت و حرمت کی نسبت ہوتی ہے،

حالانکہ انہوں نے ایسی کوئی بات فرمائی نہیں ہوتی۔

حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے، کہ شرعی دلیل کے بغیر دین میں بدعت جاری کرنے والا بھی اس میں داخل ہے۔

اسی طرح کتاب و سنت کے خلاف فتویٰ دینے والا بھی اس میں داخل ہے۔ اسی بنا پر امام ابو نضرہ فرماتے ہیں: ”سورۃ النحل کی اس آیت کے سننے کے بعد سے لے کر آج تک، میں فتویٰ دینے سے خوف زدہ ہوں۔“

امام مالک اور بعض دیگر علماء اجتہادی مسائل کے بارے میں اس بات کو ناپسند کرتے تھے، کہ فتویٰ دینے والا کہے: ”یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔“

ان کے نزدیک یہ بات صرف اسی صورت میں کہی جائے، جب پیش آمدہ مسئلہ میں حکم نص سے ثابت ہو۔ اجتہادی مسائل میں مفتی یہ کہے: ”میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔“ اور اسی قسم کے دیگر الفاظ بولے، کیوں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی کا خدشہ دور ہوتا ہے۔

علامہ شوکانی نے امام ابو نضرہ کے طرز عمل کے متعلق تحریر کیا ہے: ”اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائیں۔ انہوں نے درست کہا۔ بلاشبہ یہ آیت اپنے عام الفاظ کے ساتھ ان لوگوں پر بھی چسپاں ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اللہ ﷺ کی سنت

① ملاحظہ ہو: تفسیر أبي السعود ۱۴۷/۵-۱۴۸؛ نیز ملاحظہ ہو: الکشاف ۴۳۳/۲؛ و تفسیر ابن کثیر ۶۵۰/۲؛ و فتح القدیر ۲۸۷/۳-۲۸۸؛ و تفسیر التحرير والتنویر ۳۱۱/۱۴-۳۱۲؛ و روح المعانی ۲۴۷/۱۴-۲۴۸؛ و نیل المرام من تفسیر آیات الأحکام ص ۲۹۶۔

② ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۶۵۰/۲۔

③ ملاحظہ ہو: الأکلیل فی استنباط التنزیل ص ۱۶۵؛ و روح المعانی ۲۴۸/۱۴؛ و تفسیر القاسمی ۱۷۳/۱۰۔

④ ملاحظہ ہو: أحکام القرآن لابن العربی ۱۱۸۳/۳؛ و تفسیر القرطبی ۱۹۶/۱۰؛ و روح المعانی ۲۴۸/۱۴۔

کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، جیسا کہ اپنی رائے کو حدیث پر ترجیح دینے والے یا کتاب و سنت کے علم سے بے بہرہ مقلدین۔ اور لوگ کثرت سے ایسا کر رہے ہیں۔^❶

ب: اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْأَيْمَانَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^❷

آپ کہہ دیجیے! بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، ان میں سے جو ظاہر ہوں اور جو پوشیدہ، گناہ کو، ناحق زیادتی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، جس کی انہوں نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ایسی بات کہو، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں۔]

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے، کہ ان کے نام سے کوئی بات بلا علم کہی جائے اور اس میں..... جیسا کہ امام ابن القیم نے بیان کیا ہے..... اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں، ان کی صفات و افعال اور ان کے دین و شریعت میں بلا علم بات کہنا سب شامل ہیں۔^❸

سلف میں سے بعض علماء نے فرمایا: ”اس سے بچو، کہ تم میں سے کوئی کہے: ”اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور اس کو حرام کیا۔“ اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرمائیں: ”تم نے جھوٹ بولا، میں نے تو اس کو حلال نہیں کیا اور میں نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیا۔“ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں، کہ وہ واضح وحی سے کسی چیز کی حلت و حرمت کے

❶ سورة الأعراف / الآية ۳۳.

❷ ملاحظہ ہو: فتح القدیر ۲۸۹/۳.

❸ ملاحظہ ہو: إعلام الموقعین ۳۸/۱.

بغیر محض تقلید کی بنا پر یا اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہوئے یہ کہے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور اس کو حرام کیا ہے۔“

امام ابن القیم اس بارے میں تفصیلی گفتگو کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں:

”حاصل گفتگو یہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء و صفات اور افعال و احکام میں ان کے نام سے بلا علم بات کرنے کو حرام قرار دیا ہے اور مفتی، تو اللہ عز و جل اور ان کے دین کے بارے میں خبر دیتا ہے، پس اگر اس کی خبر ان کی شریعت کے مطابق نہ ہوئی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے نام سے بلا علم بات کہی، لیکن اگر اس نے حق تک رسائی کے لیے مقدور بھر کوشش کرنے کے بعد غلطی کی، تو اس کے لیے وعید نہیں اور اس کی غلطی کی معافی ہے، اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا ثواب ہے۔ لیکن اگر کسی نتیجے تک اس کی رسائی اجتہاد سے ہو، اور اس کے پاس اس بارے میں اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ کی کوئی نص نہ ہو، تو اس کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ [اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، یا اس کو واجب فرمایا، یا اس کو جائز قرار دیا ہے، اور بلاشبہ یہ حکم الہی ہے۔]“

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ جھوٹ کی بدترین صورت اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی ہے اور اس کی متعدد شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب شکلوں کی سنگینی اور ان کے بُرے انجام کو واضح فرما دیا ہے۔ رب کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس جھوٹ اور اس کی تمام صورتوں سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

① منقول از: إعلام الموقعین ۳۹/۱۔

② ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۴۳/۱-۴۴۔

نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنا

اللہ تعالیٰ پر افترا کے بعد دوسرے درجے کا بدترین جھوٹ نبی کریم ﷺ کی طرف ایسی بات منسوب کرنا ہے، جو کہ آپ ﷺ نے فرمائی ہو، نہ کی ہو۔ توفیق الہی سے اس بارے میں درج ذیل عناوین کے ضمن میں گفتگو کی جائے گی:

ا: نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی حرمت کے دلائل

ب: ایک حدیث میں عمداً جھوٹ بولنے والے کا حکم

ج: ترغیب و ترہیب کی خاطر جھوٹی حدیث بنانا

د: جھوٹی حدیث بیان کرنے کے بارے میں حکم

ه: نبی کریم ﷺ پر جھوٹ کے خدشہ کی بنا پر قلت روایت

و: حدیث شریف میں شبہ کی صورت میں [أَوْ كَمَا قَالَ] کہنا

ز: قیاس سے ثابت شدہ حکم کی نسبت نبی کریم ﷺ کرنے کی حرمت

ح: قاری حدیث کے لیے عربی زبان اور اسماء الرجال سے آگاہی

ا۔ نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی حرمت کے دلائل:

متعدد احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ پر افترا کی مذمت کی گئی ہے، اس کی حرمت کو واضح کیا گیا ہے اور ایسا کرنے والے کے بُرے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس سلسلے میں قدرے تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے:

ا: مخلوق کے متعلق سنگین ترین جھوٹ:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت مغیرہ بنی النضرؓ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”إِنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبِ عَلَيَّ أَحَدٍ. فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.“ •

”بلاشبہ مجھ پر جھوٹ باندھنا کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی طرح نہیں ہے۔ جس نے مجھ پر عمداً جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانا جہنم بنا لے۔“

شرح حدیث میں علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: ”یعنی آنحضرت ﷺ پر جھوٹ کی سزا زیادہ سخت ہے، کیوں کہ ایسا کرنے میں جھوٹ بولنے کے بارے میں دیدہ دلیری زیادہ ہے، اور اس کا نقصان بھی زیادہ ہے، کیوں کہ یہ درحقیقت اللہ تعالیٰ پر جھوٹ، اپنی طرف سے شریعت سازی یا اپنی طرف سے اس میں تبدیلی کرنا ہے۔“ •

حافظ ابن حجر نے اس جھوٹ کی سنگینی کی حکمت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: نبی ﷺ پر جھوٹ باندھنے کے بارے میں سختی کی حکمت واضح ہے، کیوں کہ آپ ﷺ اللہ تعالیٰ سے باتیں نقل فرماتے ہیں، تو اس طرح آپ ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے پر درج ذیل آیت میں شدید تنقید کی گئی ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ﴾ •

[اور اس سے بڑا ظالم کون ہے، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا ان کی آیات کو جھٹلائے؟]

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر جھوٹ باندھنے والے کو کافر کے ہم پلہ کر دیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

① متفق علیہ: صحیح البعاری، کتاب الجنائز، باب ما یکره من النیاحۃ علی المیت، جزء من رقم الحدیث ۱۲۹۱، ۱۶۰/۳؛ و صحیح مسلم، المقدمة، باب تغلیظ الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رقم الحدیث ۴ (۴)، ۱۰۱۱. الفاظ حدیث صحیح مسلم کے ہیں۔

② سورة الأنعام/ جزء من الآية ۲۱.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ﴾^❶
 [اور روز قیامت آپ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں کو دیکھیں گے،

کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں]

ان کے علاوہ بھی اس بارے میں متعدد آیات ہیں۔^❷

۲: بدترین جھوٹوں میں سے ایک:

امام بزار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مِنَ الْفَرَى الْفَرَى مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ.“^❸

”سب سے بڑے جھوٹوں میں سے کسی شخص کا میرے بارے میں وہ کہنا ہے، جو میں نے نہ کہا ہو۔“

حافظ ابن حجر نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے، کہ (أَفْرَى الْفَرَى) سے مراد ہے جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹ۔ ابن بطلال نے لکھا ہے، کہ (الْفَرِيَّة) سے مراد وہ سنگین جھوٹ ہے، جو [سننے والے کو] حیرت زدہ کر دے۔^❹

۳: خوشبوئے جنت سے محرومی:

امام طبرانی نے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے

❶ سورة الزمرا جزء من الآية ٦٠.

❷ ملاحظہ ہو: فتح الباري ٥٤١/٦.

❸ منقول از: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، كتاب العلم، باب فيمن كذب على رسول الله ﷺ، ١٤٤١/١ باختصار. حافظ بیہقی نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے: ”الہزار نے اس کو روایت کیا ہے

اور اس کے روایت کرنے والے صحیح کے روایت کرنے والے ہیں۔“ (المرجع السابق ١٤٤١).

❹ ملاحظہ ہو: فتح الباري ٤٣٠/١٢.

بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ نَبِيَّهُ أَوْ عَلَيَّ عَمِّيهِ أَوْ عَلَيَّ وَالِدِيهِ لَمْ يَرُحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.“ •

”جس شخص نے اپنے نبی - ﷺ - پر یا اپنی دونوں آنکھوں پر • یا اپنے والدین پر • جھوٹ بولا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھے گا۔“

مذکورہ بالا تین اقسام کے جھوٹ بولنے والے کی محرومی اور بد نصیبی کس قدر سنگین ہوگی، کہ جس جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگھی جاسکتی ہے، وہ اس کو بھی نہ پاسکیں گے۔ اے اللہ کریم! ہمیں ایسے بدنصیب لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا حی یا قیوم۔

علامہ ڈیانوی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے، کہ اس حدیث شریف سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوتی ہے، کہ جنت ایسے لوگوں پر حرام ہے، کیوں کہ جو شخص جنت کی خوشبو تک سے محروم رہے گا، وہ جنت میں کیوں کر داخل ہو سکتا ہے؟ اور اس سے مراد ابتدائی طور پر جنت سے محروم ہونا ہے، پھر ان کا معاملہ شرک کے علاوہ، دیگر گناہوں کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر منحصر ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم •

① منقول از: مجمع الزوائد و منبع الفوائد، کتاب العلم، باب فیمن کذب علی رسول اللہ ﷺ، ۱۴۸۱ھ، حافظ ہاشمی نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے: ”اس کو طبرانی نے [المعجم] الکبیر میں روایت کیا ہے اور اس کی اسناد [اسناد حسن] ہے۔“ (المرجع السابق ۱۴۸۱ھ)۔

② آنکھوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے، کہ ایسا خواب بیان کرنا، جو کہ دیکھنا نہ ہو۔

③ والدین پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ ہے، کہ اپنی نسبت اپنے حقیقی والدین کی بجائے، کسی اور کی طرف کرے۔

④ ملاحظہ ہو: عون المعبود ۷۰/۱۰۔

۴: جہنم میں داخلہ:

اس پر دلالت کتنا احادیث میں سے دو درج ذیل ہیں:

۱۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ وہ

فرماتے ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ.“

”مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، کیوں کہ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، سو وہ

[جہنم کی] آگ میں داخل ہو جائے گا۔“

امام مسلم کی روایت میں ہے:

”فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجُ النَّارَ.“

”پس بلاشبہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے، وہ [جہنم کی] آگ میں داخل ہو گا۔“

اور سنن ابن ماجہ میں ہے:

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbookfree.com

”الْكَاذِبُ عَلَيَّ يُؤَلِّجُ النَّارَ.“

”مجھ پر جھوٹ [دوزخ کی] آگ میں داخل کرے گا۔“

امام بخاری نے مذکورہ بالا حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے:

[بَابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ]

امام نووی نے صحیح مسلم کی روایت پر درج ذیل عنوان باندھا ہے:

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب العلم، رقم الحدیث ۱۰۶، ۱۹۹/۱؛ صحیح مسلم ،

المقدمة، رقم الحدیث ۱(۱)، ۹/۱ الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

② صحیح مسلم، المقدمة، رقم الحدیث ۱(۱)، ۹/۱۔

③ سنن ابن ماجہ، المقدمة، رقم الحدیث ۲۶، ۹/۱۔

④ صحیح البخاری، کتاب العلم، ۱۹۹/۱۔

[بَابُ تَغْلِيظِ الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] ❶

[رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنے کے بارے میں سختی کے متعلق باب]

اور امام ابن ماجہ نے بایں الفاظ عنوان قائم کیا ہے:

[بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَعْمُدِ الْكُذْبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] ❷

[رسول اللہ ﷺ پر عمداً جھوٹ باندھنے کے بارے میں سختی کے متعلق

باب]

ب: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ

سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.“ ❸

”جو شخص مجھ پر عمداً جھوٹ بولے، پس وہ اپنا ٹھکانا [دوزخ کی] آگ

سے بنا لے۔“

علامہ قرطبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: (فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ) میں

صیغہ امر ہے اور اس سے مراد تہدید اور وعید ہے۔ اس کے معنی کے بارے میں یہ بھی

کہا گیا ہے، کہ ایسے شخص کے لیے آنحضرت ﷺ کی بددعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کا

ٹھکانا دوزخ کی آگ بنا دے۔ اس کے معنی کے بارے میں ایک قول یہ [بھی] ہے

کہ اس کو جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ❹

❶ صحیح مسلم، المقدمة، ۹/۱۔

❷ سنن ابن ماجہ، المقدمة، ۹/۱۔

❸ متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي ﷺ، رقم

الحدیث ۱۱۰، ۱۱۰/۱، ۲۰۲/۱ و صحیح مسلم، المقدمة، باب تغلیظ الکذب علی رسول

اللہ ﷺ، رقم الحدیث ۳ (۳)، ۱۰/۱۔

❹ ملاحظہ ہو: المفہم ۱/۱۴۱؛ نیز ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱/۲۰۰۔

امام ابن حبان نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان قائم کیا ہے:

[ذِكْرُ إِجَابِ دُخُولِ النَّارِ لِمَنْ نَسَبَ الشَّيْءَ إِلَى الْمُصْطَفَى ﷺ]

، وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِصِحَّتِهِ ❶

[مصطفیٰ ﷺ کی طرف بلاشوث بات منسوب کرنے والے پر دوزخ کی

آگ میں داخل ہونے کے واجب ہونے کا ذکر۔]

اس حدیث کے متعلق علمائے اُمت کے اقوال:

۱: حافظ ابن جوزی نے امام ابو بکر اسفرائینی سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے

بیان فرمایا: ”دُنْيَا مِثْلُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا“ کے سوا کوئی اور حدیث ایسی

نہیں، جس کو عشرہ مبشرہ نے روایت کیا ہو۔“ ❷

۲: حافظ ابن جوزی نے بیان کیا ہے، کہ اس حدیث کو اکٹھ صحابہ نے رسول اللہ ﷺ

سے روایت کیا ہے۔ ❸

۳: حافظ منذری نے تحریر کیا ہے، کہ اس حدیث کو متعدد صحابہ کے حوالے سے کتب

صحاح، سنن اور مسانید میں روایت کیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ متواتر کے درجے

کو پہنچ چکی ہے۔ ❹

❶ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب المقدسه، باب الاعتصام بالسنة، ۲۱۰/۱.

❷ ملاحظه ہو: الموضوعات ۶۴/۱.

❸ ملاحظه ہو: المرجع السابق ۵۶/۱. علاوہ ازیں حافظ ابن جوزی نے ان حضرات صحابہ کی روایت کردہ

احادیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ (ملاحظه ہو: المرجع السابق ۵۶/۱-۹۲)؛ نیز ملاحظه ہو:

تحذير الحواص من أكاذيب القصاص للإمام السيوطي ص ۷۵-۱۱۹ والموضوعات

الكبرى للملا علي القاري، ص ۱۲-۲۸.

❹ ملاحظه ہو: الترغيب والترهيب ۱۱۱/۱؛ نیز ملاحظه ہو: فتح الباري ۲۰۳/۱-۲۰۴،

والموضوعات الكبرى ص ۱۲.

ب۔ ایک حدیث میں عمداً جھوٹ بولنے والے کا حکم:

امام نووی نے بیان کیا ہے، کہ جس شخص نے ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ پر عمداً جھوٹ باندھا، اس کی تمام روایات کو مسترد کر دیا جائے گا اور وہ بطور دلیل پیش کرنے کے قابل نہ رہیں گی۔

پھر اگر وہ توبہ کرے، اور اپنی توبہ میں سچا ہو، تو بھی علماء کے ایک گروہ کی رائے میں اس کی توبہ اس بارے میں اثر انداز نہ ہوگی اور اس کی روایت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار رہے گا۔ علماء کے اسی گروہ میں احمد بن حنبل، ابو بکر الحمیدی جو کہ بخاری کے استاد اور شافعی کے شاگرد ہیں، اور ابو بکر صیرفی وغیرہ علماء شامل ہیں۔

امام نووی کی رائے میں راجح بات یہ ہے، کہ اگر اس کی توبہ میں شرط توبہ موجود ہوں: گناہ سے باز آ جانا، اپنے کیے پر نادم ہونا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ، تو اس کی توبہ معتبر ہوگی اور آئندہ اس کی روایات کو قبول کیا جائے گا۔

ج۔ ترغیب و ترہیب کی غرض سے جھوٹی حدیث بنانا:

اس بارے میں دو دلائل:

بعض لوگ ترغیب و ترہیب کی خاطر نبی کریم ﷺ پر جھوٹ بولنے کو جائز سمجھتے ہیں اور اس سلسلے میں کچھ دلائل پیش کرتے ہیں، جن میں سے دو درج ذیل ہیں:

۱: ان لوگوں کی پہلی دلیل یہ ہے، کہ احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، لیکن ہم تو آپ ﷺ پر جھوٹ نہیں باندھتے،

① ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۷۰/۱۔

② ملاحظہ ہو: شرح النووي ۶۹/۱۔

بلکہ ہم تو آپ ﷺ کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، کیوں کہ ہمارا مقصد تو شریعت کی تائید و نصرت ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں، کہ لوگ خیر کی طرف راغب ہو جائیں اور شر سے دور ہو جائیں۔

۲: ان کی دوسری دلیل یہ ہے، کہ احادیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ کے بارے میں اس جھوٹ کے بولنے سے روکا گیا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو گم راہ کرنا ہو، اور ہم تو لوگوں کو راہ حق کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں وہ امام بزار کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کردہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں، کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.“

”جس شخص نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا، تاکہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو گم راہ کرے، تو اس کو چاہیے کہ [دوزخ کی] آگ سے اپنا ٹھکانا بنالے۔“

دونوں دلائل کی حقیقت:

مذکورہ بالا دونوں دلائل کی حقیقت توفیق الہی سے درج ذیل گفتگو سے واضح ہو

جائے گی: www.KitaboSunnat.com

۱: نبی کریم ﷺ پر ہر قسم کے جھوٹ بولنے کی ممانعت:

نبی کریم ﷺ نے اپنے بارے میں ہر قسم کے جھوٹ بولنے کی بلا استثنا ممانعت فرمائی ہے، اسی بارے میں حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے: ”لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ“ یہ ہر

● منقول از: مجمع الزوائد، کتاب العلم، باب فیمن کذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ

جھوٹ بولنے والے اور ہر قسم کے جھوٹ کے متعلق ہے۔ اور اس کا معنی ہے: ”میری طرف جھوٹ منسوب نہ کرو۔“ اور آپ ﷺ کے فرمان [میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو] سے مفہوم [مخالف] کا جواز مراد نہیں، کیوں کہ آپ ﷺ کے ہر قسم کے جھوٹ سے منع کرنے کے بعد اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، کہ آپ ﷺ کی خاطر جھوٹ بولا جائے۔“ ❶

علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ پر ہر قسم کا جھوٹ حرام ہونے میں ایک پہلو یہ بھی ہے، کہ جھوٹ کا تعلق خواہ حلال و حرام سے ہو یا فضائل اعمال سے، وہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس سلسلے میں امام نووی نے تحریر کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ پر جھوٹ بولنے کی حرمت کے بارے میں احکام اور غیر احکام جیسے ترغیب و ترہیب اور وعظ و نصیحت سب یکساں ہیں، تمام معتبر اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے، کہ آنحضرت ﷺ پر کسی بھی بات کے بارے میں جھوٹ بولنا بہت بڑے گناہوں اور سنگین ترین برائیوں میں سے ایک گناہ اور برائی ہے۔ البتہ بدعتی گروہ کرامیہ ❷ نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ ان کا باطل گمان ہے، کہ ترغیب و ترہیب کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بہت سے جاہل اور بزعم خود پرہیز گاروں یا جنہیں ان ایسے جاہل لوگ پرہیز گار سمجھتے ہیں، نے کرامیہ کے موقف کی پیروی کی ہے۔“ ❸

امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مزید لکھا ہے: ”ان میں سے کچھ لوگوں کا خیال ہے، کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خاطر جھوٹ ہے، آپ ﷺ پر جھوٹ نہیں۔ ان کی اس من گھڑت بات اور بے تکے استدلال میں جہالت و غفلت کی انتہا ہے اور قواعد شریعت سے ان کی ناواقفیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے اپنی اس

❶ فتح الباری ۱/۱۹۹۔ ❷ (کرامیہ): محمد بن کزّام سجستانی کی طرف منسوب ایک بدعتی فرقہ (ملاحظہ ہو: تدریب الراوی ۱/۲۸۳)۔ ❸ شرح النووی ۱/۷۰۱۔

بات میں اپنی گھٹیا عقلوں اور فاسد ذہنوں کے ساتھ کتنی ہی غلط باتوں کو جمع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس ارشادِ الہی کی یکسر مخالفت کی ہے، کہ:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَ
الْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنَّهُ مَسْئُولًا﴾ •

[جس بات کی آپ کو خبر ہی نہ ہو، اس کا پیچھا نہ کیجیے۔ بلاشبہ کان، آنکھ

اور دل، ان میں سے ہر ایک سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے۔]

انہوں نے جھوٹی گواہی کی سنگینی کے بارے میں واضح احادیث متواترہ اور صحیح احادیث مشہورہ کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے اہل حل و عقد کے اجماع اور دیگر قطعی دلائل کی بھی مخالفت کی ہے، جن کے مطابق عام لوگوں پر جھوٹ باندھنا حرام ہے، تو پھر آپ ﷺ پر جھوٹ باندھنا کیسا ہوگا، کہ ان کا فرمان تو شریعت ہے، اور ان کا کلام وحی [سے ہوتا] ہے؟ جب ان کی بات میں غور کیا جائے، تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ . إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ •

[وہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو صرف وحی ہے، جو

أتاری جاتی ہے۔]

ان لوگوں کی سب سے حیران کن بات، ان کا یہ کہنا ہے: ”ہمارا آپ ﷺ پر

جھوٹ باندھنا، آپ ﷺ کی خاطر ہے۔“

ان کا ایسا کہنا عربی زبان اور شریعت کے خطاب سے ناواقفیت کی بنا پر ہے،

کیوں کہ ان کا یہ سب کچھ کہنا، آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ •

• سورة النجم، الآيات ۳-۴۔

• سورة الإسراء، الآية ۳۶۔

• ملاحظہ ہو: شرح النووي ۷۰۱/۱-۷۱۔ نیز ملاحظہ ہو: المفہم ۱۱۴/۱-۱۱۵۔

اسی بارے میں حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: بعض جاہل لوگوں نے خود فریبی کے سبب ترغیب اور ترہیب کی خاطر جھوٹی حدیثیں وضع کیں، اور بطور دلیل کہا: ”ہم نے آپ ﷺ پر جھوٹ نہیں باندھا۔ ہم نے تو شریعت کی تائید کی غرض سے ایسا کیا ہے۔“ انہوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا، کہ نبی ﷺ کے ذمہ وہ بات لگانی، جو آپ ﷺ نے فرمائی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیوں کہ یہ تو ایک شرعی حکم کا ثابت کرنا ہے، خواہ اس کا تعلق واجب سے ہو، یا مندوب سے، یا حرام اور مکروہ سے۔

امت کے اس متفقہ موقف کی کرامیہ کی جانب سے مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں، جنہوں نے قرآن و سنت میں ثابت شدہ باتوں میں ترغیب و ترہیب کی خاطر جھوٹ جوڑنے کو جائز قرار دیا ہے، اور جواز کے لیے دلیل یہ پکڑی ہے، کہ یہ آنحضرت ﷺ کی خاطر جھوٹ ہے، آپ پر جھوٹ نہیں۔ درحقیقت یہ عربی زبان سے جہالت [کامن بولتا ثبوت] ہے۔¹

۲: إضافة حدیث [لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ] کا عدم ثبوت:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بیان کردہ الفاظ [لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ] [تاکہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو گم راہ کرے] ثابت نہیں۔ متعدد محدثین نے اس بات کو واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ذیل میں تین محدثین کے اقوال ملاحظہ فرمائیے:

۱: علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: یہ [الفاظ زائدہ] اعمش سے نقل کیے گئے ہیں، اور اس سے ان کا منقول ہونا درست نہیں۔ ان کی شہرت کے باوجود ناقص حدیث کے ہاں یہ [الفاظ] معروف نہیں۔ ابو عبد اللہ الحاکم، جو کہ ابن السنی سے معروف ہیں، نے کثیر طرق کے ساتھ نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے: ”یہ سب

① ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱/۱۹۹-۲۰۰.

② یعنی [تاکہ وہ اس کے ساتھ لوگوں کو گم راہ کرے]

بودے ہیں، ان میں کچھ بھی ثابت نہیں۔^۱

ب: امام نووی نے قلم بند کیا ہے: ”بلاشبہ [لِيُضِلَّ بِهِ النَّاسَ] کے زائد الفاظ باطل ہیں، ان کے بطلان پر حفاظ [حدیث] کا اتفاق ہے اور یقیناً یہ کسی بھی صورت میں ثابت نہیں۔“^۲

ج: حافظ ابن حجر نے لکھا ہے: ”بعض لوگوں نے بعض طریقوں سے منقولہ غیر ثابت شدہ الفاظ زائدہ سے دلیل پکڑی ہے، جن کو بزار نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں روایت کیا ہے۔“^۳

تشبیہ:

حافظ ابن جوزی نے مذکورہ بالا روایت کے علاوہ دیگر پانچ ایسی روایات ذکر کی ہیں، جن سے ان لوگوں نے یہ دلیل پکڑی ہے، کہ آنحضرت ﷺ پر صرف وہی جھوٹ باندھنا ممنوع ہے، جس کا مقصد لوگوں کو گم راہ کرنا ہو۔ پھر ان کے متعلق تحریر کیا ہے: ”یہ ساری احادیث ثابت نہیں۔“^۴

اس کے بعد حافظ ابن جوزی نے ان احادیث کے غیر ثابت شدہ ہونے کے بارے میں ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال بھی نقل کیے ہیں۔^۵

۳: زائد الفاظ کا مقصود:

مذکورہ بالا زائد الفاظ حدیث سے ثابت نہیں۔ اور اگر بفرض محال یہ الفاظ ثابت بھی ہوں، تو ان سے مراد وہ نہیں، جو ان لوگوں نے بیان کیا ہے۔ محدثین کرام کے بیان کردہ معانی کے مطابق ان الفاظ زائدہ سے آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنے پر

۱ شرح النووي ۷۱/۱.

۲ ملاحظہ ہو: المفہم ۱۱۵/۱.

۳ ملاحظہ ہو: الموضوعات ۹۷/۱.

۴ فتح الباری ۲۰۰/۱.

۵ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۹۷/۱-۹۸.

استدلال کرنا درست نہیں۔ ذیل میں توفیق الہی سے ائمہ محدثین کے بیان کردہ معانی سے تین پیش کیے جا رہے ہیں:

۱۔ ان الفاظ کا تاکید کے لیے ہونا:

علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: اگر یہ [الفاظ] ثابت بھی ہوں، تو تاکید کے لیے ہوں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں ہے:

﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾

[تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، جو بلا دلیل اللہ تعالیٰ پر جھوٹی تہمت باندھے، تاکہ لوگوں کو گم راہ کرے۔]

اور امام طحاوی نے بیان کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر ہر صورت میں جھوٹی تہمت باندھنا حرام ہے، خواہ اس کا مقصد کسی کو گم راہ کرنا ہو، یا نہ ہو۔

ب۔ ان کا انجام کے بیان کی خاطر ہونا:

امام نووی نے تحریر کیا ہے: بلاشبہ [لِيُضِلَّ] میں [لام] بیان علت کی غرض سے نہیں، بلکہ عاقبت اور انجام کے بیان کرنے کے لیے ہے، اور [آیت کریمہ] کا معنی یہ ہے، کہ اس کے جھوٹ کا نتیجہ دوسرے لوگوں کو گم راہ کرنا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد:

﴿فَالنَّقْطَةُ الِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾

[سوفرعون کے لوگوں نے اس [بچے] کو اٹھالیا، کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہو اور ان کے لیے باعث رنج بنے۔]

① سورة الأنعام / الآية ۱۴۴.

② ملاحظہ ہو: المفہم ۱/۱۵۱ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۷/۱۱۱.

③ سورة القصص / جزء من الآية ۸.

قرآن کریم اور کلام عرب میں اس کی مثالیں لاتعداد ہیں۔

ج۔ ان کے ساتھ جھوٹ کی بعض صورتوں کا بیان:

حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے: ”ان الفاظ زائدہ کا مقصود

آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں سے بعض لوگوں کا ذکر کرنا ہے،

جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ:

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾

[اے ایمان والو! بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ۔]

اور آیت کریمہ:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ﴾

[اور اپنی اولاد کو افلاس کے سبب سے قتل نہ کرو۔]

میں اولاد کے قتل اور بڑھا چڑھا کر سود کھانے سے خصوصی طور پر منع کیا گیا ہے،

اور اس کا مقصد یہ نہیں، کہ اولاد کے علاوہ دیگر لوگوں کا قتل اور بڑھانے چڑھانے کے

بغیر سود کھانا درست ہے۔ اسی طرح لوگوں کو گم راہ کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ پر

جھوٹ باندھنے سے خصوصی طور پر منع کرنے سے مقصود یہ نہیں، کہ کسی اور غرض سے اللہ

تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا جائز ہے۔

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ نبی کریم ﷺ پر کسی بھی صورت میں جھوٹ باندھنا جائز

نہیں۔ اس کے جواز کی خاطر بعض لوگوں نے جو دلائل پیش کرنے کی کوشش کی ہے، ان

کی کوئی حیثیت نہیں۔ امام نووی لکھتے ہیں: ”خلاصہ کلام یہ ہے، کہ ان کا موقف اس قدر

کمزور ہے، کہ اس کے رد کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں، اور وہ عقل و فکر سے اس

① سورة آل عمران، جزء من الآية ۱۳۰.

② ملاحظہ ہو: شرح النووي ۷۱۱.

③ ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲۰۰/۱.

④ سورة الأنعام، جزء من الآية ۱۵۱.

قدر دُور ہے، کہ تردید کا اہتمام کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، اور اس قدر خراب ہے، کہ اس کی خرابی کو واضح کرنے کی بھی کوئی حاجت نہیں۔ • واللہ تعالیٰ اعلم

شاید اس موضوع کے اختتام سے پیشتر اس بارے میں علامہ غزالی کا ایک اقتباس پیش کرنا مناسب ہو۔ انہوں نے تحریر کیا ہے: ”گمان کرنے والے نے یہ گمان کیا ہے، کہ فضائل اعمال اور نافرمانیوں کے بارے میں شدت کی غرض سے جھوٹی حدیثیں جوڑنا درست ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس کام کے پس منظر میں نیت درست ہے۔ ان کا یہ گمان کلی طور پر غلط ہے، کیوں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے:

”مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.“

[جو شخص مجھ پر قصداً جھوٹ باندھے، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ [دوزخ کی] آگ میں بنا لے۔]

ایسا کام تو صرف مجبوری ہی کی صورت میں کیا جاسکتا ہے، اور ایسی کوئی مجبوری نہیں، کیوں کہ اس بارے میں سچ اس قدر وافر مقدار میں موجود ہے، کہ جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ ثابت شدہ آیات و احادیث جھوٹی روایات سے بے نیاز کر دیتی ہیں۔ پھر علامہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایک شبہ پیش کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”کسی کہنے والے کا یہ کہنا، کہ ان [ثابت شدہ آیات و احادیث] کے بار بار سننے کی بنا پر، ان کا اثر ختم ہو چکا ہے، اور نئی باتوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔“

پھر خود ہی اس کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”یہ بے وقوفی ہے۔ یہ کوئی ایسا سبب نہیں، کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی ممانعت کو توڑا جائے۔ اس سے تو ایسی باتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، جو شریعت کو باز پچہ اطفال بنا دیں گی۔ خیر کی یہ توقع رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے کے شر کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔“

ان پر جھوٹ ایسے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کہ کوئی چیز بھی اس کا توڑ نہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے معافی کی التجا کرتے ہیں۔“ ●

د۔ جھوٹی حدیث روایت کرنے کا حکم:

کسی حدیث کے موضوع ہونے کا علم ہونے یا اس کے موضوع ہونے کے متعلق ظن غالب کے بعد، اس کا روایت کرنا حرام ہے۔ اس بات پر امام مسلم کی حضرت سرہ بن جندب اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کردہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ ان دونوں نے بیان کیا ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ • يُرَى • أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. “ ●

[جس نے مجھ سے کوئی ایسی حدیث روایت کی، کہ وہ جانتا ہے [یا گمان کرتا ہے]، کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹ بولنے [یا دو جھوٹ بولنے] والوں میں سے ایک ہے۔]

شرح حدیث میں علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: ”آ خضرت ﷺ کا فرمان: ”فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ“ میں [باء] کے کسرہ کے ساتھ ہے یعنی صیغہ جمع ہے اور معنی یہ ہے، کہ وہ رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

● ۱۔ إحياء علوم الدين ۱۳۹۱۳۔

● ۲۔ (بحديث): یعنی اگر ایک حدیث ہی ہو۔ (ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۴۴۹/۱)۔

● ۳۔ (یُرى): [باء] کے ضمہ کے ساتھ معنی گمان کرنے کا، اور [یاء] کے زبر کے ساتھ معنی علم ہونے اور جاننے کا ہے، اور دونوں طرح پڑھا جاتا ہے۔ (ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۴۴۹/۱)۔

● ۴۔ ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، المقدمہ، باب وجوب الروایة عن الثقات وترك الكذابين و التحذیر من الكذب علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، ۹/۱۔

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ
مُسَوَّدَةٌ﴾ •

[اور روز قیامت آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر
جھوٹ باندھا، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔]

اور ہم نے اس کو [باء] کی زبر کے ساتھ بھی روایت کیا ہے اور اس طرح یہ صیغہ
تشنیہ کے لیے ہوگا، اور معنی یہ ہوگا، کہ اس کے بارے میں جھوٹ ہونے کا ظن یا علم
رکھنے والے دونوں اشخاص: ایک بیان کرنے والا اور دوسرا سننے والا، جھوٹ بولنے
والے ہوں گے۔ ایک جھوٹ بیان کرنے کی بنا پر، اور دوسرا جھوٹ کا علم یا ظن غالب
ہونے کے باوجود اس حدیث کو لینے کی بنا پر۔ •

علامہ قرطبی نے مزید لکھا ہے: اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ کوئی شخص بھی
رسول اللہ ﷺ سے حدیث کو اس کے سچ ہونے کے علم یا ظن غالب حاصل ہونے
کے بغیر روایت نہ کرے، البتہ اگر مقصود اس حدیث کے جھوٹ کا بیان ہو، تو اس پر یہ
حدیث چسپاں نہ ہوں گی۔ •

امام نووی تحریر کرتے ہیں: اس حدیث کی فقہ ظاہر ہے۔ اس میں دروغ گوئی اور
اس کو نقل کرنے کے بارے میں سختی کی گئی ہے۔ جو شخص کسی ایسی بات کو روایت کرے،
جس کے جھوٹ ہونے کے بارے میں اس کا ظن غالب ہو، تو وہ خود بھی جھوٹا ہوگا۔ وہ
جھوٹا کیوں کر نہ ہوگا، جب کہ وہ ایسی بات ہونے کی خبر دے رہا ہے، جو سرے سے
موجود ہی نہ تھی۔ •

علاوہ ازیں امام مسلم نے اپنی کتاب [صحیح] کے مقدمہ میں تحریر کیا ہے:

① سورة الزمر/ جزء من الآية ٦٠.

② ملاحظہ ہو: المفہم ١/١١٢؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ١/٦٦٠.

③ ملاحظہ ہو: شرح النووی ١/٦٥.

④ ملاحظہ ہو: المفہم ١/١١٢.

”اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے! اس بات کو سمجھ لیجیے، کہ صحیح اور ضعیف روایات میں، اور ثقہ راویان اور متہم راویوں میں فرق کو پہچاننے والے ہر شخص پر لازم ہے، کہ وہ صرف ایسی احادیث ہی روایت کرے، جن کے ثبوت کا اس کو علم ہو اور اس کے راویان کے بارے میں کوئی قابل اعتراض بات اس نے نہ سنی ہو، اور وہ تہمت زدہ اور بدعتیوں میں سے ہٹ دھرم راویوں سے روایت کرنے میں گریز کرے۔“

امام نووی نے اس بارے میں لکھا ہے: موضوع حدیث کا علم رکھنے یا اس کے بارے میں موضوع ہونے کا ظن غالب رکھنے والے شخص پر اس کا روایت کرنا حرام ہے۔ ایسا شخص حدیث شریف میں بیان کردہ وعید کے مطابق رسول اللہ ﷺ پر جھوٹ باندھنے والوں میں شامل ہے۔ اس پر حدیث سابق بھی دلالت کرتی ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ.“

[جس شخص نے مجھ سے ایسی حدیث بیان کی، کہ وہ سمجھتا ہے، کہ وہ جھوٹ

ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔] ❶

ہ۔ آنحضرت ﷺ پر جھوٹ کے خدشہ کے پیش نظر قلتِ روایت:

بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم مذکورہ بالا احادیث کی بنا پر اس قدر ڈر گئے، کہ وہ احادیث کے خود سننے اور جاننے کے باوجود، بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ اس بارے میں تین مثالیں توفیق الہی سے ذیل میں پیش کی جا رہی ہیں:

۱: امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں نے زبیر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا: ”میں آپ کو رسول اللہ ﷺ سے اس طرح حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنتا، جس طرح کہ فلاں فلاں

❶ ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، المقدمة ۸/۱۔ ❷ ملاحظہ ہو: شرح النووی ۷۱/۱۔

شخص حدیث بیان کرتے ہیں۔“

انہوں نے جواب دیا: سنو! میں بلاشبہ ان سے دور نہ رہا، لیکن میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا تھا: ”جس شخص نے مجھ پر قصداً جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانا [دوزخ کی] آگ بنالے۔“^①

ایک دوسری روایت میں ہے، کہ انہوں نے فرمایا: ”اے میرے چھوٹے بیٹے! تم اس قرابت اور رشتہ داری سے آگاہ ہو، جو میرے اور آپ ﷺ کے درمیان تھی۔ ان کی پھوپھی میری والدہ تھیں، ان کی اہلیہ خدیجہ بنت النخعا میری پھوپھی تھیں۔ ان کی والدہ آمنہ، وہب کی بیٹی اور میری دادی ہالہ، وہیب کی بیٹی تھیں اور وہب اور وہیب دونوں بھائی بھائی تھے اور ان کے والد عبد مناف تھے۔ میری زوجہ، جو تمہاری والدہ ہیں، ان کی ہمیشہ عاتشہ بنت النخعا ان کے ہاں تھیں، لیکن میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ”جس شخص نے قصداً مجھ پر..... الحدیث۔“^②

②: امام ابن ماجہ اور امام دارمی نے عمرو بن میمون سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں جمعرات کی شام کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں حاضری کو نہ چھوڑتا، لیکن میں نے انہیں کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نہ سنا: رسول اللہ ﷺ نے [اس کے بارے میں] فرمایا۔“

ایک شام انہوں نے فرمایا: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا،“ تو [ساتھ ہی] انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، میں نے ان کی طرف نگاہ اٹھائی، تو [دیکھا کہ] وہ بٹن کھولے کھڑے تھے، ان کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں اور ان کی رگیں پھولی ہوئی تھیں۔

① صحیح البخاری، کتاب العلم، باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، رقم الحديث ۲۰۰۱، ۱۰۷، ۲۰۰۱۔
② منقول از: فتح الباری ۲۰۰/۱۔

پھر انہوں نے فرمایا: ”یا [آپ ﷺ نے] اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، یا اس کے قریب قریب یا اس سے ملتی جلتی بات فرمائی۔“ ❶

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ ساری صورتِ حال صرف اسی خوف کی بنا پر تھی، کہ کہیں ان سے حدیث کے بیان کرنے میں نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے کی سنگین غلطی سرزد نہ ہو جائے۔

❸: امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا: ”بلاشبہ مجھے آپ لوگوں کے روبرو زیادہ حدیثیں بیان کرنے سے نبی کریم ﷺ کا فرمان:

”جس شخص نے قصداً مجھ پر جھوٹ باندھا، تو اس کو چاہیے کہ وہ [دوزخ

کی] آگ میں اپنا گھر بنالے۔“

روک رہا ہے۔“ ❷

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

❶ سنن ابن ماجہ ، المقدمة، التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، رقم الحدیث ۸/۱، ۸/۱۸؛ و سنن الدارمی، باب من ہاب الفیتا مخافة السقط ، رقم الحدیث ۷۲/۱، ۷۲/۶۔ الفاظ حدیث سنن ابن ماجہ کے ہیں۔ حافظ بوصیری نے اس کے متعلق تحریر کیا ہے: ”یہ اسناد صحیح ہے، بخاری اور مسلم کے ہاں اس کے تمام راویان قابل احتجاج ہیں۔“ (مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجہ ۴۶/۱)؛ شیخ البانی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح ابن ماجہ ۱۰/۱)؛ نیز ملاحظہ ہو: تخریج الدكتور بشار لسنن ابن ماجہ ۵۹/۱؛ وإنجاز الحاجة للشیخ جانباز ۲۸۹/۱-۲۱۰۔

❷ صحیح البخاری، کتاب العلم ، باب إثم من كذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ، رقم الحدیث ۲۰۱/۱، ۱۰۸۔

تنبیہ: اس بارے میں مزید مثالوں کے لیے ملاحظہ ہو: سنن ابن ماجہ ، المقدمة، باب التوقی فی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ، ۸/۱، ۹؛ و سنن الدارمی، باب من ہاب الفیتا مخافة السقط ، ۷۱/۱، ۷۵؛ والموضوعات للحافظ ابن الجوزی ۹۲/۱-۹۴؛ وتحذیر الخواص للعلامة السیوطی، الفصل الثالث فی توقی الصحابة والتابعین كثرة الحدیث مخافة من النسیان والدخول فی حدیث الوعد ، ص ۱۴۹-۱۶۱۔

و۔ الفاظ حدیث میں اشتباہ کی صورت میں [أَوْ كَمَا قَالَ] • کہنا:

علمائے کرام نے بیان کیا ہے: ”جب حدیث کے راوی یا قاری کو اس کے کسی لفظ کے بارے میں اشتباہ کی بنا پر شک ہو، تو اس کو چاہیے، کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد [أَوْ كَمَا قَالَ] کہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔“ •

ز۔ قیاس سے ثابت حکم کی آنحضرت ﷺ کی طرف نسبت:

علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: بعض فقہائے عراق قیاس سے ثابت شدہ احکام کی نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کے بارے میں کہتے ہیں: [رسول اللہ ﷺ نے یوں یوں فرمایا] اسی بنا پر آپ ان کی کتابوں کو ایسی مرفوع احادیث سے بھری ہوئی دیکھتے ہیں، کہ ان کے متون ہی ان کے جھوٹ ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کی عبارات فقہاء کے فتاویٰ سے مشابہت رکھتی ہیں، نبی کریم ﷺ کی فصاحت و بلاغت سے ان کا کوئی میل نہیں ہوتا۔ علاوہ ازیں وہ نہ تو خود ان کی کوئی صحیح سند ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی علمائے حدیث سے ان کی کوئی سند نقل کرتے ہیں۔

یہ لوگ اس قطعی ممانعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور حدیث میں بیان کردہ مذمت اور وعید ان پر چسپاں ہوتی ہے۔ بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کفر ہے۔ جہاں تک آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنے کا تعلق ہے، اگر جھوٹ بولنے والا اس کو جائز سمجھے، تو وہ کافر ہوتا ہے، اور اگر وہ اس کو روانہ سمجھتے ہوئے، جھوٹ باندھے، تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ [لیکن] کیا وہ کافر ہے یا نہیں اس بارے میں [علماء کا] اختلاف ہے۔ •

① یعنی [یا جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا۔]

② ملاحظہ ہو: المفہم ۱۱۵/۱

③ شرح النووي ۷۲/۱

ح۔ قاری حدیث کے لیے عربی زبان اور اسمائے رجال سے آگاہی:
 امام نووی نے تحریر کیا ہے: ”علماء نے فرمایا ہے: قاری حدیث کو چاہیے، کہ وہ
 عربی زبان کے قواعد، عربی زبان اور راویوں کے ناموں سے اتنی آگاہی حاصل
 کر لے، کہ وہ آنحضرت ﷺ کے بارے میں ایسی بات کہنے سے محفوظ ہو جائے، جو
 آپ نے نہ فرمائی ہو۔“ ●

3

جھوٹا خواب

جھوٹ کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ کوئی شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ
 کرے، جو اس نے دیکھا نہ ہو۔ علامہ غزالی نے تحریر کیا ہے: ”بسا اوقات خواب کے
 بیان کرنے میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اور اس کا گناہ سنگین ہے۔“ ●
 ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس جھوٹ کی سنگینی اور اس کے شدید عذاب سے امت
 کو آگاہ فرمایا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں اس بارے میں تفصیل پیش کی جا رہی ہے:

ا: بڑے جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ:

امام بخاری نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ رسول
 اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَقْرَى الْفَرَى • أَنْ يُرَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ.“ ●

● إحياء علوم الدين ۱۴۱/۳۔

● شرح النووي ۱۷۱/۱۔

● (من أقرى الفرى): الفرى: فرية کی جمع ہے اور اس سے مراد ایسا بڑا جھوٹ ہے، کہ سنے والا حیران

و ششدر رہ جائے اور (أقرى الفرى) سے مراد سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ (ملاحظہ ہو: عمدة القاری

۱۶۸/۲۴)۔

● صحیح البخاری، کتاب التبعیر، باب من کذب فی حلمه، رقم الحدیث ۴۳۰۷۰/۱۲۰۷۰۴۲۷۔

”بڑے جھوٹوں میں سے یہ ہے، کہ اپنی آنکھ کو وہ دکھائے، جو اس نے دیکھا نہ ہو۔“

ب۔ دائی عذاب کا مستحق ہونا:

امام بخاری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُفْلًا أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ ، وَلَنْ يَفْعَلَ.“

”جو شخص ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے، جو اس نے دیکھا نہ ہو، تو اس کو دودھاگوں کے درمیان گرہ لگانے کا پابند کیا جائے گا اور وہ ہرگز [ایسا] نہ کر پائے گا۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے ایسا جھوٹ بولنے والے کے لیے ابدی عذاب کے مستحق ہونے کی خبر دی ہے۔ علامہ ابن ابی جرہ نے تحریر کیا ہے: ”اس کا معنی یہ ہے، کہ جب تک وہ ان کے درمیان گرہ نہ لگائے گا، بتلائے عذاب رہے گا۔ اور وہ ان کے درمیان گرہ تو کبھی بھی نہیں لگا سکے گا، سو اس کا عذاب ابدی ہوگا۔“

تنبیہات:

اس مقام پر قارئین کرام کی توجہ درج ذیل دو باتوں کی طرف مبذول کروانا شاید

● یعنی ایسا خواب دیکھنے کا دعویٰ کرے، جو اس نے نہ دیکھا ہو۔

● صحیح البخاری، کتاب التعبیر، باب من کذب فی حلمہ ، جزء من رقم الحدیث ۷۰۴۲، ۴۲۷/۱۲۔

● بھجة النفوس ۲۰۰۱/۱۴۔ ایسے شخص کے عذاب کے دائی ہونے سے مراد یہ ہے، کہ وہ ایسا عذاب پانے کا مستحق ہوگا، البتہ شرک کے علاوہ دیگر کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کی طرح اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہوگا۔ واللہ تعالیٰ اعلم

۱: جھوٹے خواب اور اس کے عذاب میں باہمی مناسبت:
 علامہ ابن جریر نے یہ سوال ان الفاظ میں اٹھایا ہے: ”اس کی کروت اور بیان کردہ سزا میں کیا تعلق ہے؟“

پھر انہوں نے خود ہی جواب دیتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”اس نے اللہ تعالیٰ پر ان کی تخلیق کے حوالے سے جھوٹ باندھا، کیوں کہ خواب اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس نے ایک غیر موجود چیز کو معنوی صورت میں موجودات میں شامل کر دیا، جس طرح کہ کوئی صورت بنانے والا شخص غیر موجود چیز کو محسوس موجودات میں داخل کر دیتا ہے، کیوں کہ صورت کا حقیقی مقصود روح اور حیات ہوتی ہے، جو کہ اس میں رکھی جاتی ہے۔ اس لیے مادی صورت بنانے والے کو اس بات کا پابند کیا جائے گا، کہ وہ اپنی بنائی ہوئی صورت میں روح پھونک کر اس کی تکمیل کرے اور خواب میں جھوٹ بولنے والے نے جس طرح ایک لطیف صورت بنائی، اسی طرح اس کو ایک لطیف کام کا پابند کیا جائے گا، کہ وہ دو دھاگوں کے درمیان گرہ لگائے۔“ ●

۲: شدید وعید کی حکمت:

جھوٹے خواب کی سنگینی اور اس کے عذاب کی شدت کی حکمت کے بارے میں علمائے امت نے متعدد حکمتیں ذکر کی ہیں۔ ان میں سے تین ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ اس کا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہونا:

امام طبری فرماتے ہیں: ”بسا اوقات بیداری میں جھوٹ کی خرابی

جھوٹے خواب کی خرابی سے زیادہ سنگین ہوتی ہے، کیوں کہ بیداری میں جھوٹ قتل، حد یا کسی کا مال چھیننے کے بارے میں گواہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جھوٹے خواب کی وعید اس سے زیادہ سخت ہے، اس کی وجہ یہ ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ دکھایا، جو کہ [حقیقت میں] اس نے دیکھا نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مخلوق پر بولنے سے زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَيَّ رَبِّهِمْ﴾ •

[گواہی دینے والے کہیں گے: یہ وہ لوگ ہیں، جنہوں نے اپنے رب پر

جھوٹ بولا۔]

ب: اس کے ذریعہ خالق ہونے کا دعویٰ:

اس سلسلے میں علامہ ابن ابی جرہ نے تحریر کیا ہے: جھوٹے خواب والا اللہ جل جلالہ کی قدرت اور تخلیق میں تنازعہ کرتا ہے، کیوں کہ وہ لسان حال سے دعویٰ کر رہا ہے، کہ وہ خالق ہے اور اس نے ایسی چیز تخلیق کی ہے، جو خلق الہی سے مشابہ ہے، اور یہ بات فی نفسہ درست نہیں۔ اس لیے اس کو سب سے ادنیٰ چیز تخلیق کرنے کے امتحان میں ڈالا گیا۔

﴿كُلُّ مَنْ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ فِيهِ كَذَّبَتْهُ شَوَاهِدُ الْإِمْتِحَانِ﴾ •

[ہر وہ شخص جو ایسی چیز کا دعویٰ کرے، جو اس میں نہ ہو، تو امتحان کے شواہد

اس کی تکذیب کر دیں گے۔]

ج: نبوت پر جھوٹ:

اس بارے میں علامہ ابن ابی جرہ نے تحریر کیا ہے: ”ایسا شخص نبوت

① ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱۲/۴۲۸.

② سورة هود/جزء من الآية ۱۸.

③ ملاحظہ ہو: بهجة النفوس ۲۰۱/۴.

اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا

پر جھوٹ باندھتا ہے، کیوں کہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.“

[جس شخص نے مجھ پر قصداً جھوٹ بولا، سو وہ [دوزخ کی] آگ سے اپنا

ٹھکانا بنا لے۔]

اللہ تعالیٰ ہم سب کو جھوٹے خواب کے بیان کرنے اور ہر قسم کی دروغ گوئی سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

4

اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا

جھوٹ کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ کوئی شخص اپنے باپ اور کنبے کی بجائے، کسی اور سے اپنا تعلق جوڑے۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس گناہ کی سنگینی اور اس کا ارتکاب کرنے والے کے بُرے انجام سے اُمت کو آگاہ فرمایا ہے۔ اس بارے میں ذیل میں قدرے تفصیلی گفتگو دو عنوانوں کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ اس گناہ کی سنگینی:

اس گناہ کی سنگینی پر متعدد نصوص دلالت کرتی ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

- ۱ اس حدیث کی تخریج کتاب ہذا کے ص ۱۰۶ میں ملاحظہ فرمائیے۔
- ۲ بهجة النفوس ۲۵۱/۴۔ امام طبری نے مزید تحریر کیا ہے: نبوت پر جھوٹ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے، کیوں کہ نبوت من جانب اللہ ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۴۲۸/۱۲)۔ علامہ یعنی اس سلسلے میں لکھتے ہیں: ”کیونکہ خواب نبوت کا حصہ، اور اس میں جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے سنگین سزا کا مستحق ہے۔“ (عمدة القاري ۱۶۸/۲۴)۔

۱: عظیم گناہوں میں سے ایک:

امام بخاری نے حضرت واثلہ بن اسحق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرْيِ أَنْ يَدَّعِي الرَّجُلُ إِلَىٰ غَيْرِ أَبِيهِ.....“

① الحدیث“

”بلاشبہ حیران و ششدر کرنے والے عظیم جھوٹوں میں سے ہے، کہ آدمی اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے..... الحدیث“

۲: باپ کی طرف نسبت نہ کرنے والے پر حکم کفر:

۱: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”لَا تَرَعِبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَعِبَ عَنْ أَبِيهِ فَقَدْ كَفَرَ.“ ①

”اپنے باپوں سے بے رغبتی نہ کرو۔ پس جس نے اپنے باپ سے بے رغبتی کی، یقیناً اس نے کفر کیا۔“

اور [باپوں سے بے رغبتی نہ کرنے] سے مراد یہ ہے، کہ ان کی طرف نسبت

کرنے میں بے رغبتی نہ کرو۔ اور [اپنے باپ سے بے رغبتی کرنے] سے مراد اس کی طرف نسبت کا انکار کرتے ہوئے، اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنا ہے۔ ②

① صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب، جزء من رقم الحدیث ۵۴۰۱۶، ۳۵۰۹

② متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الفرائض، باب من ادّٰعٰ الی غیر اٰبہ، رقم الحدیث

۵۴۱۱۲، ۶۷۶۸، وصحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من رغب عن اٰبہ

وہو یعلم، رقم الحدیث ۱۱۳ (۶۲)، ۸۰۱۱. الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

③ ملاحظہ ہو: شرح النووی ۵۲/۲، و مرقاة المفاتیح ۴۷۷/۶

اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا

ب: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعى لغيرِ أبيه — وَهُوَ يَعْلَمُهُ — إِلَّا كَفَرَ بِاللَّهِ.“

”جس شخص نے جانتے ہوئے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا۔“

بعض شارحین حدیث نے بیان کیا ہے، کہ اس کے اس عمل کو کفر قرار دینے کا سبب یہ ہے، کہ اس نے اپنی اس بات سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، کیوں کہ اپنی بیان کردہ نسبت کے ساتھ، گویا کہ یوں کہہ رہا ہے: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں شخص کے پانی سے پیدا کیا ہے۔“ حالانکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے شخص کے پانی سے پیدا فرمایا تھا۔

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

۳: لعنت کا مستحق ہونا:

۴: اعمال کا قبول نہ ہونا:

امام مسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ ادَّعى إِلَى غيرِ أبيه أَوْ اتَّمَى إِلَى غيرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب المناقب، باب ، جزء من رقم الحدیث ۳۵۰۸،

۴۵۳۹/۶، وصحیح مسلم ، کتاب الإیمان، باب بیان حال إیمان من رغب عن أبيه ، وهو

يعلم ، جزء من رقم الحدیث ۱۱۲ (۶۱)، ۷۹/۱ . الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

② ملاحظہ ہو: فتح الباری ۵۵/۱۲ .

• صَرَفًا وَلَا عَدْلًا .

”جو شخص اپنے باپ کی بجائے کسی دوسرے کی طرف یا اپنے آقاؤں کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کی نہ فرضی عبادت قبول فرمائیں گے اور نہ ہی نفلِ عبادت۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنے والے شخص کے لیے دو قسم کی سزائیں بیان فرمائی ہیں:

پہلی سزا: اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت۔ امام نووی نے تحریر کیا ہے: اس کا معنی یہ ہے کہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتے ہیں، اسی طرح فرشتے اور تمام لوگ اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس میں رحمت الہی سے اس کی بہت زیادہ دوری کا بیان ہے، کیونکہ لعنت سے مراد دھتکارنا اور دُور کرنا ہے۔ اور اس مقام پر لعنت سے مراد وہ عذاب ہے، جس کا وہ اپنے گناہ کی وجہ سے مستحق قرار پایا، اور ابتداءً امر میں جنت سے دھتکارا گیا۔

دوسری سزا: اللہ تعالیٰ روزِ قیامت اس کی کوئی فرضی اور نفلِ عبادت قبول نہ فرمائیں گے۔ یہ سزا کس قدر سنگین اور خطرناک ہے! اللہ کریم ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

امام نووی نے اس حدیث شریف کے بارے میں تحریر کیا ہے: ”اس میں انسان کی اپنے باپ کی بجائے، کسی اور کی طرف یا آزاد کردہ غلام کی اپنے سابقہ آقاؤں کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنے کی شدید حرمت واضح طور پر بیان کی گئی ہے، کیونکہ

① صحیح مسلم، کتاب الحج، باب فضل المدينة..... جزء من رقم الحدیث ۴۶۷۔

(۱۳۷۰)، ۹۹۴/۳۰-۹۹۸۔

② ملاحظہ ہو: شرح النووی ۱۴۰/۹-۱۴۱۔

اپنے باپ کی بجائے کسی اور کی طرف نسبت کرنا

نسبت کی اس تبدیلی میں ناپاس گزاری، وراثت، ولاء^۱، دیت وغیرہ کے حقوق کا ضائع کرنا، قطع رحمی اور والدین کی نافرمانی ہے۔“^۲

۵: جنت کا اس پر حرام ہونا:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ.“

”جس شخص نے اپنے باپ کی بجائے، کسی اور کی طرف نسبت، یہ جانتے ہوئے کی، کہ وہ اس کا باپ نہیں، تو جنت اس پر حرام ہے۔“

میں^۳ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے فرمایا: ”خود میرے دونوں کانوں نے اس کو رسول اللہ ﷺ سے سنا اور میرے دل نے اس کو اچھی طرح سمجھا۔“^۴

کس قدر بد نصیب ہے وہ شخص، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے محروم ہونے کی سزا دیں! اور جس پر جنت حرام ہوگئی، تو اس کا ٹھکانا دوزخ کی آگ ہی ہوگی، کیوں کہ دنیا کے بعد جنت ہے یا جہنم۔^۵

۱ (ولاء): آزاد کردہ غلام کے فوت ہونے کی صورت میں آزاد کرنے والے شخص کا اس کا وارث ہونا۔

۲ شرح النووي ۱۴۴/۹۔

۳ یعنی راوی حدیث ابو عثمان نے کہا۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱۲/۵۴)۔

۴ متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الفرائض، باب من ادَّعى إلى غير أبيه، رقمي الحديثين ۶۷۶۶، ۶۷۶۷، ۵۴/۱۲؛ وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، وهو يعلم، رقم الحديث ۱۱۴۔ (۶۳)، ۸۰/۱۔ الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

۵ ملاحظہ ہو: بهجة النفوس ۴/۲۳۳۔

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ. آمين يا رب العالمين.
 خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ اپنے باپ کی بجائے کسی اور سے تعلق جوڑنا انتہائی سنگین
 برائی ہے اور ایسا کرنے والے کی سزا بہت بُری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برائی اور
 اس کی سزا سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

ب: اس جھوٹ کی بعض شکلیں

اس قسم کے جھوٹ کی دو شکلیں درج ذیل ہیں:

۱: کوئی شخص کسی ایسے خاندان، یا کنبے یا قبیلے کی طرف اپنی نسبت کر لے، جن کے
 ساتھ اس کا تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پر اپنے آپ کو قریشی، صدیقی، فاروقی،
 عثمانی، علوی، چوہدری، خاں، راجہ، یا راجپوت وغیرہ کہے، حالانکہ اس کا ان
 کنبوں اور قبیلوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔

۲: کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کے بیٹے کو اپنالے، اور اس کو اپنا بیٹا قرار دے
 دے۔ اس طریق عمل کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمائی ہے۔

ارشادِ ربانی ہے:

﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ ۱

[اور تمہارے لے پا لک لڑکوں کو [اللہ تعالیٰ نے] تمہارے [حقیقی] بیٹے
 نہیں بنایا۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ حق بات
 فرماتے ہیں اور وہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ ان [لڑکوں]
 کو ان کے [حقیقی] باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں

یہی صحیح انصاف والی بات ہے۔]

شیخ سعدی اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”(الأدعیاء) سے مراد وہ بچہ ہے، جس کو کوئی شخص اپناتا ہے، حالانکہ وہ اس کا نہیں ہوتا، یا اس کے کسی کو اپنانے کی بنا پر، اس کو اس کی طرف منسوب کیا جائے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت اور ابتدائے اسلام میں دستور تھا۔

اللہ تعالیٰ نے اس دستور کے خاتمہ اور ابطال کا ارادہ فرمایا، تو پہلے اس رواج کی بُرائی اور اس کے باطل اور جھوٹ ہونے کو بیان فرمایا، اور [یہ تو مسلمہ حقیقت ہے] باطل اور جھوٹ کے لیے نہ تو شریعت میں کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے بندوں کا اس سے کچھ تعلق ہے۔^①

اے اللہ کریم! ہماری زبانوں کو ہر قسم کے جھوٹ سے پاک فرما دیجیے۔ آمین یا رب العالمین۔

نہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا

بعض لوگ ان اوصاف اور چیزوں کے اپنے پاس ہونے کا دوسروں کو تاثر دیتے ہیں، جن سے وہ حقیقت میں تہی دامن ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے ایسے طرز عمل کی بُرائی کو اُمت کے لیے خوب آشکارا فرما دیا ہے۔ ذیل میں توفیق الہی سے قدرے تفصیل سے اس کے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت اسماء بنتیہؓ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک عورت نے عرض کیا:

① ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۶۵۸۔

”يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي صَرَّةً، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟“

”یا رسول اللہ ﷺ! بلاشبہ میری ایک سوکن ہے، تو کیا مجھ پر گناہ ہے، کہ میں اپنے خاوند سے وہ پالینے کا اظہار کروں، جو کہ اس نے مجھے دیا نہ ہو؟“

رسول اللہ ﷺ نے جواب میں ارشاد فرمایا:

”الْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورٌ.“

”اس چیز کے پالینے کا اظہار کرنے والا، جو اس کو نہیں دی گئی، جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی مانند ہے۔“

شرح حدیث:

اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں علمائے اُمت کو، کہ انہوں نے اس حدیث کی خوب شرح کی ہے۔ ذیل میں پانچ اقوال توفیق الہی سے پیش کیے جا رہے ہیں:

۱: امام ابو عبید نے تحریر کیا ہے: ”آپ ﷺ کا فرمان [الْمُتَشَبِعُ] غیر موجود چیز سے جھوٹ موٹ مزین ہونے کا اظہار کرنے والا، جیسے کہ کوئی عورت اپنی سوکن کو جلانے کی خاطر، خاوند کے ہاں اس مقام کے پانے کا دعویٰ کرے، جو اس کو حاصل نہ ہو اور اسی طرح یہ بات مردوں میں بھی ہے۔“

آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی: [كَلَابِسِ ثَوْبِي زُورًا] تو اس سے مراد یہ ہے، کہ آدمی زاہدوں ایسے کپڑے پہنے، تاکہ وہ لوگوں کو اس فریب میں مبتلا کر سکے، کہ

❶ متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب النکاح، باب المتشبع بما لم ينل ، وما ينهي من افتخار الضرة، رقم الحديث ۳۱۷۹، ۵۲۱۹؛ صحیح مسلم ، کتاب اللباس والزينة، باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والمتشبع بما لم يُعْطَ ، رقم الحديث ۱۲۷۔ (۲۱۳۰) ۱۶۸۱/۳ الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

نہ ملنے کے باوجود حاصل ہونے کا دعویٰ کرنا

وہ ان میں سے ہے، وہ اپنے دل میں موجود عاجزی اور رویشی، سے زیادہ کا اظہار کرے۔“

۲: علامہ خطابی رقم طراز ہیں: ”کپڑے کا ذکر مثال کی غرض سے ہے، اور مراد یہ ہے، کہ وہ جھوٹا ہے، جیسے کہ گھٹیا کاموں سے محفوظ شخص کو [طاہر الثوب] پاک کپڑے والا [کہا جاتا ہے، اور اس سے مقصود وہ شخص خود ہی ہوتا ہے۔“

۳: علامہ ابوسعید ضریو نے بیان کیا: ”اس سے مراد جھوٹی گواہی دینے والا ہے، وہ بسا اوقات دو کپڑے عاریتاً لے کر (اپنے آپ کو) باوقار ظاہر کرتا ہے، تاکہ وہ دوسروں کو فریب دے سکے، کہ اس کی گواہی قابل قبول ہے۔“

۴: علامہ ابن التین بیان کرتے ہیں: ”اس سے مراد وہ شخص ہے، جو امانت رکھے ہوئے یا عاریتاً لیے ہوئے دو کپڑے پہنتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں، کہ وہ کپڑے اس کے ذاتی ہیں، لیکن وہ کپڑے اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہتے اور اس کے جھوٹ کا پول کھل جاتا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے سوال کرنے والی خاتون کو اس کی ذکر کردہ حرکت سے منع فرمایا، کیوں کہ اس کی بنا پر خاوند اور سوکن کے درمیان خرابی اور باہمی نفرت کے پیدا ہونے، اور اس کی بات کے جادو کی طرح، ان کے درمیان جدائی ڈالنے کا اندیشہ تھا۔“

۵: علامہ زحتمری تحریر کرتے ہیں: ”(الْمُتَشَبِعُ) یعنی سیر ہونے والے سے مشابہت کی کوشش کرنے والا، اگرچہ وہ سیر نہ ہوا ہو۔ اور یہ استعارہ کے طور پر

۱ منقول از: فتح الباری ۳۱۷/۹-۳۱۸؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱۱۰-۱۱۱؛ وعمدة القاري ۲۰۴/۲۰.

۲ منقول از: فتح الباری ۳۱۸/۹؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱۱۱/۱۴ وعمدة القاري ۲۰۴/۲۰.

۳ منقول از: فتح الباری ۳۱۸/۹؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱۱۱/۱۴.

۴ منقول از: فتح الباری ۳۱۸/۹.

ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے، جو کسی ایسی خوبی سے آراستہ ہونا ظاہر کرے، جو اس میں موجود نہ ہو۔ اور آنحضرت ﷺ نے اس کو جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے سے تشبیہ دی ہے، اور اس سے مراد وہ شخص ہے، جو ریاکاری کی غرض سے صالحین ایسا لباس پہنتا ہے۔“ ۱

۶: علامہ ابن اثیر نے لکھا ہے: ”خوب صورتی کے اظہار کی خاطر اپنے پاس موجود سے زیادہ ظاہر کرنے والا، جیسے کہ وہ شخص کہ اس کو سیر شدہ تصور کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوتا۔“ ۲

حدیث میں صیغہ تشنیہ استعمال کرنے کی حکمت:

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے تشنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا: [كَأَلْبَسَ نَوْبِي زُورًا] [جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والا]۔ علمائے اُمت نے اس صیغہ کے استعمال کی حکمت بیان کرنے کی سعی فرمائی ہے۔ اس بارے میں تین اقوال ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱: علامہ داودی بیان کرتے ہیں: ”تشنیہ کے صیغہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ اس شخص کی مانند ہے، جس نے دو مرتبہ جھوٹ بولا۔ آنحضرت ﷺ نے اس صیغہ کا استعمال عورت کو روکنے میں زور پیدا کرنے کے لیے فرمایا۔“ ۳

۲: علامہ زحشری نے تحریر کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے تشنیہ کے صیغہ کے استعمال سے یہ بیان کرنا چاہا، کہ غیر موجود چیز سے اپنے آپ کو آراستہ ظاہر کرنے والا

۱ منقول از: فتح الباری ۳۱۸/۹۔ نیز ملاحظہ ہو: الفائق فی غریب الحدیث للعلامة الزمخشري

، مادة ”شبع“، ۲۱۶/۲-۲۱۷۔

۲ منقول از: النهاية فی غریب الحدیث والأثر، مادة ”شبع“، ۴۴۱/۲؛ نیز ملاحظہ ہو: غریب

الحدیث للحافظ ابن الجوزي ۵۱۷/۱۔

۳ منقول از: فتح الباری ۳۱۸/۹۔

جھوٹ کے دو کپڑے پہننے والے کی طرح ہے، کہ ایک نیچے ایک اوپر ❶ جیسے کہ کہا جاتا ہے:
[إِذَا هُوَ بِالْمَجْدِ ارْتَدَى وَتَأَزَّرَأ.]

”بزرگی کی ایک چادر اوپر اور ایک نیچے پہن رکھی ہے۔“ ❷

۳: حافظ ابن حجر نے علامہ زحمتی کا کلام نقل کرنے کے بعد لکھا ہے: ”چدر اور تہ بند

سے اس بات کی طرف اشارہ ہے، کہ وہ سر تا پاؤں جھوٹ میں لپٹا ہوا ہے۔“

حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ مزید تحریر کرتے ہیں: ”صیغہ تشبیہ کے استعمال میں اس بات

کی طرف اشارہ کا بھی احتمال ہے، کہ بلا دئے پانے کے اظہار میں دو قابل مذمت

باتیں ہیں: ظاہر کردہ چیز یا وصف کا فقدان اور باطل کا ظاہر کرنا۔“ ❸

رب کعبہ کی قسم! ایسے عمل والے لوگ ناکام و نامراد ہوئے! اے اللہ کریم! ہمیں،

ہماری اولادوں، اور سارے اہل اسلام کو ایسی کروت سے محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب

العالمین۔

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbook.org

ب: اس جھوٹ کی بعض موجودہ شکلیں:

میری ناقص رائے میں علمائے اُمت کے اقوال میں مذکورہ بالا تمام

شکلوں پر حدیث شریف میں بیان کردہ مذمت چسپاں ہوتی ہے، کیونکہ ان سب شکلوں

میں غیر موجود خصلت یا چیز کی موجودگی کا اظہار کیا جاتا ہے۔

اس جھوٹ کی چند مزید صورتیں ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

ا: حصول ملازمت کے خواہش مند لوگوں کا ایسی صلاحیت اور مہارت کے حصول کا

دعویٰ کرنا، جو ان میں نہ ہو۔

❶ یعنی وہ سر سے لے کر پاؤں تک جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے۔

❷ منقول از: فتح الباری ۳/۱۸/۹؛ نیز ملاحظہ ہو: الفائق فی غریب الحدیث ، مادة ”شبع“

۲/۲۱۷/۲؛ وعمدة القاري ۲۰/۴۱۲۰۔

❸ فتح الباری ۳/۱۸/۹، نیز ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۲۰/۴۱۲۰۔

- ۲: بعض نیم خواندہ لوگوں کا جامعات کے اساتذہ، طبیبوں اور وکیلوں کا مخصوص لباس پہننا، تاکہ لوگ انہیں بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں شمار کریں۔
- ۳: بعض اہل علم کا اپنی حیثیت سے بڑے القاب کو اپنے لیے رواج دینے کے لیے براہ راست یا بالواسطہ کوشش کرنا۔ کتنے ایسے لوگ ”شیخ القرآن“، ”شیخ التفسیر“، ”شیخ الحدیث“، ”مفسر القرآن“، ”محدث العصر“، ”مفکر اسلام“، ”علامہ“، ”عظیم سکالر“، ”مجاہد ملت“، ”خطیب ملت“، ”قائد ملت“، ”پروفیسر“ اور ڈاکٹر وغیرہ القاب اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اور ان کے لیے استعمال نہ کرنے پر خفا ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ان القاب کے استحقاق سے تہی دامن ہوتے ہیں۔
- ۴: بعض اعلیٰ عہدیداروں کا اپنے ماتحت لوگوں سے علمی اور تحقیقی کام کروا کر اپنے ناموں سے شائع کرنا۔

ان سب صورتوں پر مذکورہ بالا حدیث شریف چسپاں ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، ہماری اولادوں اور سب اہل اسلام کو جھوٹ کی ان سب صورتوں سے ہمیشہ ہمیشہ دور رکھیں۔ **إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ**.

6

تہمت لگانا

جھوٹ کی ایک بدترین صورت تہمت لگانا ہے۔ یعنی کسی بے گناہ پر بہتان اور الزام لگانا۔ اس کے متعلق دو عنوانوں کے تحت تفصیل ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

۱۔ تہمت کی سنگینی

اس گناہ کی مذمت اور بُرائی کے بارے میں وارد شدہ بعض نصوص کے حوالے سے گفتگو ذیل میں ملاحظہ فرمائیے:

ا: سب سے جھوٹی بات:

ہمارے نبی کریم ﷺ نے امت کو اس عظیم گناہ سے ڈور رہنے کی تلقین کرتے ہوئے اس کو [سب سے جھوٹی بات] قرار دیا۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

”يَأْتِكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَدَابَّرُوا ، وَلَا تَبَاغَضُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا.“

”[ظن] سے بچو، کیونکہ [ظن] سب سے جھوٹی بات ہے، ایک دوسرے کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، باہمی حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، اور بھائی بھائی کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہو۔“

حدیث شریف میں [الظن] سے مراد تہمت ہے۔ شرح حدیث میں علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ کے ارشاد [يَأْتِكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ] میں [الظن] سے مراد تہمت ہے اور ممنوعہ تہمت وہ ہے، کہ اس کے لیے کوئی وجہ جواز نہ ہو، جیسے کہ کوئی شخص کسی دوسرے پر بغیر کسی قرینے اور علامت کے زانا یا شراب پینے کا الزام لگا دے۔“

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب ما ینہی عن التحاسد والتدابیر، وقوله تعالیٰ: (وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ)، رقم الحدیث ۶۰۶۴، ۴۸۱۱، ۱۰۰۶، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲، ۱۴۶۳، ۱۴۶۴، ۱۴۶۵، ۱۴۶۶، ۱۴۶۷، ۱۴۶۸، ۱۴۶۹، ۱۴۷۰، ۱۴۷۱، ۱۴۷۲، ۱۴۷۳، ۱۴۷۴، ۱۴۷۵، ۱۴۷۶، ۱۴۷۷، ۱۴۷۸، ۱۴۷۹، ۱۴۸۰، ۱۴۸۱، ۱۴۸۲، ۱۴۸۳، ۱۴۸۴، ۱۴۸۵، ۱۴۸۶، ۱۴۸۷، ۱۴۸۸، ۱۴۸۹، ۱۴۹۰، ۱۴۹۱، ۱۴۹۲، ۱۴۹۳، ۱۴۹۴، ۱۴۹۵، ۱۴۹۶، ۱۴۹۷، ۱۴۹۸، ۱۴۹۹، ۱۵۰۰، ۱۵۰۱، ۱۵۰۲، ۱۵۰۳، ۱۵۰۴، ۱۵۰۵، ۱۵۰۶، ۱۵۰۷، ۱۵۰۸، ۱۵۰۹، ۱۵۱۰، ۱۵۱۱، ۱۵۱۲، ۱۵۱۳، ۱۵۱۴، ۱۵۱۵، ۱۵۱۶، ۱۵۱۷، ۱۵۱۸، ۱۵۱۹، ۱۵۲۰، ۱۵۲۱، ۱۵۲۲، ۱۵۲۳، ۱۵۲۴، ۱۵۲۵، ۱۵۲۶، ۱۵۲۷، ۱۵۲۸، ۱۵۲۹، ۱۵۳۰، ۱۵۳۱، ۱۵۳۲، ۱۵۳۳، ۱۵۳۴، ۱۵۳۵، ۱۵۳۶، ۱۵۳۷، ۱۵۳۸، ۱۵۳۹، ۱۵۴۰، ۱۵۴۱، ۱۵۴۲، ۱۵۴۳، ۱۵۴۴، ۱۵۴۵، ۱۵۴۶، ۱۵۴۷، ۱۵۴۸، ۱۵۴۹، ۱۵۵۰، ۱۵۵۱، ۱۵۵۲، ۱۵۵۳، ۱۵۵۴، ۱۵۵۵، ۱۵۵۶، ۱۵۵۷، ۱۵۵۸، ۱۵۵۹، ۱۵۶۰، ۱۵۶۱، ۱۵۶۲، ۱۵۶۳، ۱۵۶۴، ۱۵۶۵، ۱۵۶۶، ۱۵۶۷، ۱۵۶۸، ۱۵۶۹، ۱۵۷۰، ۱۵۷۱، ۱۵۷۲، ۱۵۷۳، ۱۵۷۴، ۱۵۷۵، ۱۵۷۶، ۱۵۷۷، ۱۵۷۸، ۱۵۷۹، ۱۵۸۰، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳، ۱۵۸۴، ۱۵۸۵، ۱۵۸۶، ۱۵۸۷، ۱۵۸۸، ۱۵۸۹، ۱۵۹۰، ۱۵۹۱، ۱۵۹۲، ۱۵۹۳، ۱۵۹۴، ۱۵۹۵، ۱۵۹۶، ۱۵۹۷، ۱۵۹۸، ۱۵۹۹، ۱۶۰۰، ۱۶۰۱، ۱۶۰۲، ۱۶۰۳، ۱۶۰۴، ۱۶۰۵، ۱۶۰۶، ۱۶۰۷، ۱۶۰۸، ۱۶۰۹، ۱۶۱۰، ۱۶۱۱، ۱۶۱۲، ۱۶۱۳، ۱۶۱۴، ۱۶۱۵، ۱۶۱۶، ۱۶۱۷، ۱۶۱۸، ۱۶۱۹، ۱۶۲۰، ۱۶۲۱، ۱۶۲۲، ۱۶۲۳، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵، ۱۶۲۶، ۱۶۲۷، ۱۶۲۸، ۱۶۲۹، ۱۶۳۰، ۱۶۳۱، ۱۶۳۲، ۱۶۳۳، ۱۶۳۴، ۱۶۳۵، ۱۶۳۶، ۱۶۳۷، ۱۶۳۸، ۱۶۳۹، ۱۶۴۰، ۱۶۴۱، ۱۶۴۲، ۱۶۴۳، ۱۶۴۴، ۱۶۴۵، ۱۶۴۶، ۱۶۴۷، ۱۶۴۸، ۱۶۴۹، ۱۶۵۰، ۱۶۵۱، ۱۶۵۲، ۱۶۵۳، ۱۶۵۴، ۱۶۵۵، ۱۶۵۶، ۱۶۵۷، ۱۶۵۸، ۱۶۵۹، ۱۶۶۰، ۱۶۶۱، ۱۶۶۲، ۱۶۶۳، ۱۶۶۴، ۱۶۶۵، ۱۶۶۶، ۱۶۶۷، ۱۶۶۸، ۱۶۶۹، ۱۶۷۰، ۱۶۷۱، ۱۶۷۲، ۱۶۷۳، ۱۶۷۴، ۱۶۷۵، ۱۶۷۶، ۱۶۷۷، ۱۶۷۸، ۱۶۷۹، ۱۶۸۰، ۱۶۸۱، ۱۶۸۲، ۱۶۸۳، ۱۶۸۴، ۱۶۸۵، ۱۶۸۶، ۱۶۸۷، ۱۶۸۸، ۱۶۸۹، ۱۶۹۰، ۱۶۹۱، ۱۶۹۲، ۱۶۹۳، ۱۶۹۴، ۱۶۹۵، ۱۶۹۶، ۱۶۹۷، ۱۶۹۸، ۱۶۹۹، ۱۷۰۰، ۱۷۰۱، ۱۷۰۲، ۱۷۰۳، ۱۷۰۴، ۱۷۰۵، ۱۷۰۶، ۱۷۰۷، ۱۷۰۸، ۱۷۰۹، ۱۷۱۰، ۱۷۱۱، ۱۷۱۲، ۱۷۱۳، ۱۷۱۴، ۱۷۱۵، ۱۷۱۶، ۱۷۱۷، ۱۷۱۸، ۱۷۱۹، ۱۷۲۰، ۱۷۲۱، ۱۷۲۲، ۱۷۲۳، ۱۷۲۴، ۱۷۲۵، ۱۷۲۶، ۱۷۲۷، ۱۷۲۸، ۱۷۲۹، ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۲، ۱۷۳۳، ۱۷۳۴، ۱۷۳۵، ۱۷۳۶، ۱۷۳۷، ۱۷۳۸، ۱۷۳۹، ۱۷۴۰، ۱۷۴۱، ۱۷۴۲، ۱۷۴۳، ۱۷۴۴، ۱۷۴۵، ۱۷۴۶، ۱۷۴۷، ۱۷۴۸، ۱۷۴۹، ۱۷۵۰، ۱۷۵۱، ۱۷۵۲، ۱۷۵۳، ۱۷۵۴، ۱۷۵۵، ۱۷۵۶، ۱۷۵۷، ۱۷۵۸، ۱۷۵۹، ۱۷۶۰، ۱۷۶۱، ۱۷۶۲، ۱۷۶۳، ۱۷۶۴، ۱۷۶۵، ۱۷۶۶، ۱۷۶۷، ۱۷۶۸، ۱۷۶۹، ۱۷۷۰، ۱۷۷۱، ۱۷۷۲، ۱۷۷۳، ۱۷۷۴، ۱۷۷۵، ۱۷۷۶، ۱۷۷۷، ۱۷۷۸، ۱۷۷۹، ۱۷۸۰، ۱۷۸۱، ۱۷۸۲، ۱۷۸۳، ۱۷۸۴، ۱۷۸۵، ۱۷۸۶، ۱۷۸۷، ۱۷۸۸، ۱۷۸۹، ۱۷۹۰، ۱۷۹۱، ۱۷۹۲، ۱۷۹۳، ۱۷۹۴، ۱۷۹۵، ۱۷۹۶، ۱۷۹۷، ۱۷۹۸، ۱۷۹۹، ۱۸۰۰، ۱۸۰۱، ۱۸۰۲، ۱۸۰۳، ۱۸۰۴، ۱۸۰۵، ۱۸۰۶، ۱۸۰۷، ۱۸۰۸، ۱۸۰۹، ۱۸۱۰، ۱۸۱۱، ۱۸۱۲، ۱۸۱۳، ۱۸۱۴، ۱۸۱۵، ۱۸۱۶، ۱۸۱۷، ۱۸۱۸، ۱۸۱۹، ۱۸۲۰، ۱۸۲۱، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳، ۱۸۲۴، ۱۸۲۵، ۱۸۲۶، ۱۸۲۷، ۱۸۲۸، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰، ۱۸۳۱، ۱۸۳۲، ۱۸۳۳، ۱۸۳۴، ۱۸۳۵، ۱۸۳۶، ۱۸۳۷، ۱۸۳۸، ۱۸۳۹، ۱۸۴۰، ۱۸۴۱، ۱۸۴۲، ۱۸۴۳، ۱۸۴۴، ۱۸۴۵، ۱۸۴۶، ۱۸۴۷، ۱۸۴۸، ۱۸۴۹، ۱۸۵۰، ۱۸۵۱، ۱۸۵۲، ۱۸۵۳، ۱۸۵۴، ۱۸۵۵، ۱۸۵۶، ۱۸۵۷، ۱۸۵۸، ۱۸۵۹، ۱۸۶۰، ۱۸۶۱، ۱۸۶۲، ۱۸۶۳، ۱۸۶۴، ۱۸۶۵، ۱۸۶۶، ۱۸۶۷، ۱۸۶۸، ۱۸۶۹، ۱۸۷۰، ۱۸۷۱، ۱۸۷۲، ۱۸۷۳، ۱۸۷۴، ۱۸۷۵، ۱۸۷۶، ۱۸۷۷، ۱۸۷۸، ۱۸۷۹، ۱۸۸۰، ۱۸۸۱، ۱۸۸۲، ۱۸۸۳، ۱۸۸۴، ۱۸۸۵، ۱۸۸۶، ۱۸۸۷، ۱۸۸۸، ۱۸۸۹، ۱۸۹۰، ۱۸۹۱، ۱۸۹۲، ۱۸۹۳، ۱۸۹۴، ۱۸۹۵، ۱۸۹۶، ۱۸۹۷، ۱۸۹۸، ۱۸۹۹، ۱۹۰۰، ۱۹۰۱، ۱۹۰۲، ۱۹۰۳، ۱۹۰۴، ۱۹۰۵، ۱۹۰۶، ۱۹۰۷، ۱۹۰۸، ۱۹۰۹، ۱۹۱۰، ۱۹۱۱، ۱۹۱۲، ۱۹۱۳، ۱۹۱۴، ۱۹۱۵، ۱۹۱۶، ۱۹۱۷، ۱۹۱۸، ۱۹۱۹، ۱۹۲۰، ۱۹۲۱، ۱۹۲۲، ۱۹۲

اس مقام پر [الظن] سے مراد تہمت ہونے کی دلیل یہ ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے اس کے بعد فرمایا: ”ایک دوسرے کے عیوب کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔“

کیونکہ ہوتا یوں ہے، کہ ایک شخص کو کسی کے متعلق ابتداء میں تہمت کا خیال آتا ہے، تو پھر وہ اس کی موجودگی کے بارے میں چھان پھنگ اور بحث و تمحیص کرتا ہے۔“^۱
حافظ ابن حجر مذکورہ بالا تمام کلام نقل کرنے کے بعد تحریر کرتے ہیں: یہ حدیث ارشادِ بانی:

﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَبَ بَّعْضُكُم بَعْضًا﴾^۲

[زیادہ [ظن] سے بچو، یقیناً بعض [ظن] گناہ ہیں اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔]

کے مطابق ہے۔ اس آیت کا سیاق مسلمان کی عزت کی غایت درجہ حفاظت کے حکم پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ پہلے [ظن] کی بنیاد پر اس کی عیب جوئی سے منع کیا گیا ہے۔ پس اگر [ظن] کرنے والا کہے: ”میں تو تحقیق کی غرض سے چھان بین کر رہا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا: ”ایک دوسرے کے خلاف جاسوسی نہ کرو“ پس اگر وہ کہے کہ ”میں نے جاسوسی کے بغیر تحقیق کر لی ہے“ تو اس سے کہا جائے گا: ”تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔“^۳

۲: آنحضرت ﷺ کا صحابہ سے اجتناب تہمت کا عہد لینا:

تہمت کی سنگین برائی کے دلائل میں سے ایک یہ بھی ہے، کہ آپ ﷺ نے

۱۔ سورة الحجرات / جزء من الآية ۱۲۔

۲۔ المفہم ۵۳۴/۶۔

۳۔ فتح الباری ۴۸۱/۱۰۔

حضرات صحابہ سے تہمت سے اجتناب کا عہد لیا۔ امام مسلم نے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

”أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِي ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادِنَا ، وَلَا يَعْضَهُ بَعْضُنَا بَعْضًا.....“^①

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح عہد لیا، جس طرح کہ عورتوں سے عہد لیا، کہ: ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، اپنی اولادوں کو قتل نہ کریں گے، اور ایک دوسرے پر جھوٹ اور بہتان نہ باندھیں گے..... الحدیث“

شیخ البانی نے اپنی کتاب [سلسلة الاحادیث الصحيحة] میں اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان باندھا ہے:

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooks.com
[تَحْرِيمُ الْبُهْتَانِ وَالْكَذِبِ] ^②
[بہتان اور جھوٹ کی حرمت]

ب: تہمت کی بعض شکلیں

تہمت کی متعدد شکلوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱: بے گناہ کو مورد الزام ٹھہرانا:

بعض بدنصیب لوگ بے گناہ اشخاص پر الزام لگا کر غضب الہی کو دعوت دیتے ہیں۔ شاید ایسے نادانوں کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے قصہ میں سامانِ عبرت ہو۔ امام بخاری نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

① صحیح مسلم ، کتاب الحدود، باب الحدود كفارة لأهلها، جزء من رقم الحديث ۴۳۔
(۱۷۰۹)، ۱۳۳۳/۳۔

② سلسلة الأحاديث الصحيحة ۵۷۱/۵۔

نے بیان کیا: ”اہل کوفہ نے حضرت سعد کی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے روبرو شکایت کی۔ ان کی جملہ شکایات میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی، کہ وہ نماز درست نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ مقرر فرما دیا۔ پھر انہیں اپنے پاس بلا کر فرمایا: ”اے ابواسحاق! • ان لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نماز درست نہیں پڑھاتے۔“

ابواسحاق رضی اللہ عنہ نے جواب میں بیان کیا: ”اللہ تعالیٰ کی قسم! میں تو ان کی امامت رسول اللہ ﷺ والی نماز کے ساتھ کروایا کرتا تھا۔ اس نماز میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتا تھا۔ میں انہیں نمازِ عشاء پڑھاتا، تو پہلی دو رکعتوں میں طویل قرأت کرتا اور آخری دو رکعتوں میں تخفیف کرتا۔“

انہوں [عمر رضی اللہ عنہ] نے فرمایا: ”اے ابواسحاق! آپ کے بارے میں یہی گمان ہے۔“

پھر انہوں نے ان کے ساتھ کوفہ کی جانب ایک آدمی یا کچھ آدمی روانہ کیے۔ ان کے بارے میں اہل کوفہ سے پوچھا۔ ایک ایک مسجد میں ان کے متعلق استفسار کیا گیا، تو لوگوں نے ان کی تعریف کی۔ یہاں تک کہ وہ مسجد بنی عبس میں تشریف لائے، تو ان میں سے اُسامہ بن قتادہ نامی شخص، جس کی کنیت ابوسعہ تھی، نے کہا: ”جب آپ ہم سے دریافت کر رہے ہیں، تو [بات یہ ہے کہ] سعد رضی اللہ عنہ۔ فوجی دستے کے ساتھ نہیں جاتے، تقسیم میں مساوات کا خیال نہیں رکھتے، اور فیصلے میں انصاف نہیں کرتے۔“

سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کی قسم! ضرورتیں دعائیں کروں گا! اے اللہ! اگر آپ کا یہ بندہ جھوٹا ہے اور ریا اور دکھلاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، تو اس

کی عمر دراز کر دیجیے، اس کے افلاس کو طویل کر دیجیے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دیجیے۔“
اس کے بعد جب کبھی اس شخص سے دریافت کیا جاتا، تو وہ کہتا: ”فتنہ میں مبتلا
بڑھا ہوں، مجھے سعد..... رضی اللہ عنہ..... کی بددعا لگ چکی ہے۔“

عبدالملک • بیان کرتے ہیں: ”میں نے اس شخص کو اس کے بعد دیکھا، کہ
بڑھاپے کی بنا پر اس کی بھویں آنکھوں پر گری ہوئی تھیں اور وہ راستے میں گزرتی ہوئی
جوان لڑکیوں کے جسموں کو اپنی انگلیوں سے دباتا تھا۔“ •

اس حدیث شریف میں یہ بات واضح ہے، کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ پر
ناجائز الزامات لگانے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سنگین سزائیں دیں۔ اور
اس کو ملنے والی سزاؤں میں سے ایک ذلت آمیز اور رسوا کن سزا یہ تھی، کہ وہ کبر سنی
کے باوجود راستوں میں جوان لڑکیوں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چھیڑ چھاڑ
کرتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے: ”وہ اندھا ہو گیا، اور اس کے ہاں دس بیٹیاں جمع
ہو گئیں۔ جب بھی وہ عورت کی آواز سنتا، تو اس کو پکڑ لیتا۔ جب اس پر اعتراض کیا جاتا،
تو وہ کہتا: ”با برکت سعد کی بددعا۔“

ایک اور روایت میں ہے: ”وہ غربت و افلاس کا شکار ہوا اور فتنے میں مبتلا کیا گیا۔“

ایک اور روایت میں ہے: ”جو فتنہ بھی پیا ہوتا، وہ اس میں شریک ہوتا۔“

ایک اور روایت میں ہے: ”وہ فتنہ مختار • کے وقت موجود تھا اور اسی میں مارا
گیا۔“ •

• (عبدالملک): راویان حدیث میں سے ایک ہیں۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲/۲۴۰)۔

• صحیح البخاری، کتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم فی الصلوات کلھا

فی الحضرة والسفر، وما یجهر فیھا وما یخافت، رقم الحدیث ۲۳۶۱/۲، ۷۵۵۔

• فتنہ مختار: اس سے مراد مختار بن ابی عبید ثقفی ہے، اور یہ فتنہ ۶۲ھ میں پیا ہوا۔

• منقول از: فتح الباری ۲/۲۴۰؛ نیز ملاحظہ ہو: عمدة القاری ۸/۶۔

ان میں سے ہر ایک سزا کس قدر سنگین اور عبرت ناک ہے!
اللہ تعالیٰ بے گناہوں پر تہمت لگانے سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین

۲: پاک دامن عورتوں پر بہتان:

تہمت کی ایک بدترین صورت بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان باندھنا ہے۔ اس بارے میں وارد شدہ نصوص میں سے تین درج ذیل ہیں:
۱۔ ایک مہلک گناہ:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے فرمایا:
”اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ.“
”سات ہلاک کرنے والے [گناہوں] سے بچو۔“
انہوں [صحابہ] نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وہ کون سے ہیں؟“
آپ ﷺ نے فرمایا:

” الشِّرْكَ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ.“^①

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کردہ جان کا قتل ناحق، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کرنا، جنگ کے دن فرار ہونا، بھولی بھالی پاک دامن ایمان والی عورتوں پر بہتان باندھنا۔“

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الحدود، باب رمي المحصنات، رقم الحديث ۶۸۵۷، ۱۸۱۱/۱۲؛ وصحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان الكبائر وأکبرها، رقم الحديث ۱۴۵- (۸۹)، ۹۲/۱. الفاظ حدیث صحیح البخاری کے ہیں۔

علامہ عینی نے تحریر کیا ہے، کہ [الْمُؤْبَقَاتِ] سے مراد ہلاک کرنے والے [اعمال] ہیں، اور علامہ مہلب نے ان کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، کہ وہ اپنے کرنے والوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔^۱

ب۔ حد قذف:

اس قسم کی الزام تراشی کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے حد قذف مقرر فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^۲

”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت باندھیں، اور پھر چار گواہ نہ لائیں، تو انہیں اسی درے لگاؤ اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اور یہی لوگ فاسق ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے لیے تین سزائیں مقرر فرمائی ہیں:

پہلی سزا: اسی درے: اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں ارشاد فرمایا:

﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [انہیں اسی درے مارو]۔ قاضی ابوسعود اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾^۳ [پس اگر یہ لوگ گواہ نہ لائیں، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹے ہیں]۔ کے مطابق یہ سزا گواہ پیش نہ کر سکنے کی صورت میں ان کے جھوٹ اور افترا کے ظاہر ہونے کی وجہ سے ہے۔“^۴

۱۔ سورة النور الآية ۴

۲۔ ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۲۹/۳۴

۳۔ تفسیر أبي السعود ۱۵۷/۶

۴۔ سورة النور/جزء من الآية ۱۳

دوسری سزا: تمام معاملات میں تازندگی شہادت مسترد:

اس پر آیت کریمہ کا یہ حصہ: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ دلالت کرتا ہے۔^۱
 قاضی ابوسعود اپنی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”یعنی ساری زندگی۔“^۲ اور شیخ
 قاسمی نے لکھا ہے: ”ان کے جھوٹ ظاہر ہونے کی بنا پر کسی بھی واقعہ میں [ان کی گواہی
 قبول نہ کرو]۔“^۳

تیسری سزا: [فاسق] کا لقب:

اس پر آیت کریمہ کا یہ حصہ: ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ دلالت کرتا ہے۔^۴
 قاضی ابوسعود نے تحریر کیا ہے: ”سابقہ کلام کی تاکید اور اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان کی گھٹیا
 حیثیت کو بیان کرنے کی غرض سے جدید کلام ہے۔ اسم اشارہ [أُولَٰئِكَ] میں موجود دُوری
 کے معنی میں ان کے شر و فساد میں بہت آگے نکل جانے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ ایسے
 لوگ ہیں، کہ نافرمانی، اطاعت گزاری سے نکلنے اور حدود سے تجاوز کرنے کا ان پر حکم لگایا
 گیا ہے۔ وہ ان خصلتوں میں اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں، کہ گویا کہ لقب [فاسق]
 کے وہ تنہا ہی مستحق ہیں، اور ان کے سوا کوئی دوسرا مستحق نہیں۔“^۵
 ج۔ مسلسل لعنت کا پانا:

اس کا ذکر اس ارشادِ بانی میں ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. يَوْمَ تُشْهَدُ عَلَيْهِمْ
 أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمْ

① ترجمہ: ”ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو۔“ ② تفسیر ابی السعود ۱۵۸/۶۔

③ تفسیر القاسمی ۱۳۳/۱۲۔

④ ترجمہ: ”اور یہی لوگ وہ فاسق ہیں۔“

⑤ تفسیر ابی السعود ۱۵۸/۶۔

اللَّهِ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۱﴾

[بلاشبہ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی جاتی ہے۔ اور ان کے لیے ہی عذاب عظیم ہے۔ اس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے قدم ان کے اعمال کے متعلق ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دیں گے اور وہ جان لیں گے، کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہیں اور وہ ظاہر کرنے والے ہیں۔]

شیخ سعدی نے تحریر کیا ہے: ﴿لَعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ اور لعنت تو صرف کبیرہ گناہ کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تاکیداً بیان فرمایا ہے، کہ ان پر لعنت جاری رہے گی۔ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ یہ لعنت کے علاوہ مزید سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور فرمادیا، اور ان پر شدید عذاب نازل فرمایا۔

تنبیہ: تہمت خواہ عورت پر لگائی جائے یا مرد پر، دونوں صورتوں میں حد قذف یکساں ہے، سزا میں کچھ کمی و بیشی نہ ہوگی۔ قاضی بیضاوی نے تحریر کیا ہے: ”اس میں مذکور مونث میں کچھ فرق نہیں۔ پاک دامن عورتوں کی تخصیص خاص واقعہ کی بنا پر ہے، یا اس لیے ہے، کہ عام طور پر تہمت خواتین پر لگائی جاتی ہے اور وہ زیادہ سنگین ہوتی ہے۔“

اور اس بات پر اجماع اُمت ہے۔ علامہ ابن بطلال نے تحریر کیا ہے: ”مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے، کہ قیاس و استدلال کے اعتبار سے پاک دامن مردوں پر تہمت لگانے کا حکم پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے کی مانند ہے، اور جس شخص نے پاک دامن ایمان والے آزاد شخص پر تہمت باندھی، تو اس کی حد اسی طرح اسی دُڑے

① سورة النور الآيات ۲۳-۲۵۔ ترجمہ: ”ان پر دنیا و آخرت میں لعنت کی جاتی ہے۔“

② ترجمہ: ”اور ان ہی کے لیے عذاب عظیم ہے۔“ ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۶۰۹۔

③ تفسیر البيضاوي ۱/۱۶۶؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر القاسمي ۱۲/۱۳۳؛ و تفسیر السعدی ص ۶۰۶۔

ہیں، جیسے کہ پاک دامن آزاد عورت پر بہتان لگانے والے شخص کی سزا ہے۔“

۳: اپنا گناہ بے گناہ کے سر تھوپ دینا:

تہمت کی ایک سنگین شکل یہ ہے، کہ آدمی غلطی کا ارتکاب خود کرے اور منسوب کسی دوسرے شخص کی طرف کر دے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَمَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ آثَمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾

[اور جو شخص کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے، اور اسے کسی بے گناہ پر

ذال دے، تو اس نے بہتان اور کھلے گناہ کا ارتکاب کیا۔]

شیخ سعدی نے آیت شریفہ کی تفسیر میں تحریر کیا ہے: ”جو شخص کبیرہ یا صغیرہ گناہ خود کرے، پھر اپنا گناہ کو بے گناہ کے سر تھوپ دے، تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھ اور کھلا گناہ کیا۔“

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے، کہ بہتان ہلاک کرنے والے کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں متعدد مفسد جمع ہیں: بڑے یا چھوٹے گناہ خود ارتکاب کرنا، بے گناہ پر اس کا الزام لگانا، اپنے آپ کو بے گناہ، اور بے گناہ کو گناہ گار ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنا، اس گناہ کی بنا پر ملنے والی سزا سے اپنے آپ کو بچانا، اور بے گناہ پر اس کو نافذ کروانا، پھر بے گناہ کا لوگوں کے طعن و تشنیع کا نشانہ بننا، اور اس کے علاوہ دیگر خرابیاں بھی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ان مفسد اور ہر شر سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

شیخ ابوبکر الجزائری اس آیت کریمہ سے حاصل ہونے والی ہدایت کا ذکر کرتے

① شرح صحیح البخاری للعلامة ابن بطال ۴۸۹/۸؛ نیز ملاحظہ ہو: فتح الباری ۱۲/۱۸۱۔

② ملاحظہ ہو: تفسیر السعدی ص ۱۹۱۔

③ سورة النساء / الآية ۱۱۲۔

وئے تحریر کرتے ہیں: ”[اس میں] بے گناہوں پر جھوٹا الزام اور امانت داروں پر
نیابت کا بہتان باندھنے کے سنگین گناہ کا بیان ہے۔“ ❶

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ جھوٹ کی بدترین قسموں میں سے ایک تہمت ہے اور اس کی
تعدد شکلیں ہیں۔ قرآن و سنت میں ان سب شکلوں سے دُور رہنے کی تلقین کی گئی
ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب شکلوں سے دُور رکھیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ.

7

جھوٹی گواہی دینا

جھوٹ کی ایک اور بدترین صورت جھوٹی گواہی دینا ہے۔ توفیق الہی سے ذیل
میں اس کے متعلق قدرے تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے:
کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ:

امام بخاری نے حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان

کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَلَا أَنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟“

”کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے [بھی] سب سے بڑے گناہوں
کے متعلق خبر نہ دوں؟“

ہم نے عرض کیا: ”کیوں نہیں یا رسول اللہ!“

آپ ﷺ نے یہی بات تین مرتبہ دہرائی۔

[پھر آپ ﷺ نے فرمایا]:

”الْبِشْرَاكُ بِاللَّهِ ، وَعَقْوُقُ الْوَالِدَيْنِ.“

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی۔“

آپ ﷺ نے ٹیک لگا رکھی تھی، تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، اور فرمایا:

”أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ.“

”خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔ خبردار اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی۔“

آپ ﷺ یہی بات دہراتے رہے۔ یہاں تک کہ میں نے کہا: ”آپ ﷺ خاموش نہ ہوں گے۔“

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے، کہ جھوٹی گواہی دینا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک ہے۔ علامہ قرطبی نے اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے: [شَهَادَةُ الزُّورِ] سے مراد جھوٹی اور باطل گواہی ہے۔ اس کے بہت بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہونے کی وجہ یہ ہے، کہ یہ جانوں اور مالوں کی بربادی، حرام کو حلال، اور حلال کو حرام کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ شرک کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے کوئی گناہ اپنے ضرر اور بربادی میں اس سے زیادہ نہیں۔^۱ مزید برآں ہم دیکھتے ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے جھوٹ اور جھوٹی گواہی کی سنگینی اور برائی کی طرف سامعین کو متوجہ کرنے کا خصوصی اہتمام فرمایا۔ یہ اہتمام درج ذیل تین باتوں میں خوب نمایاں ہے:

۱: آنحضرت ﷺ کا ان دونوں کے متعلق آغاز گفتگو سے پیشتر ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھنا۔ اس بارے میں حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے: ”یہ واضح ہے کہ آپ ﷺ [ان دونوں کے متعلق] اہتمام فرماتے ہوئے ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔“^۲

۲: آپ ﷺ نے ان دونوں کے متعلق گفتگو کی ابتدا [أَلَا] [خبردار] سے فرمائی۔

① صحیح البخاری، کتاب الأدب، باب عقوق الوالدین من الکبائر، قالہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ، رقم الحدیث ۵۹۷۶، ۵۰۱۰، ۴۰۵۱۔

② ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲۶۳/۵۔

③ ملاحظہ ہو: المفہم ۲۸۲/۱۔

۳: آپ ﷺ نے [خبردار! اور جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی] کے الفاظ اتنی مرتبہ دہرائے، کہ راوی کہہ اٹھا، کہ ”آپ ﷺ خاموش نہ ہوں گے۔“

آنحضرت ﷺ کے اس اہتمام کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن دقیق العید نے تحریر کیا ہے: ”جھوٹی گواہی کے بارے میں آنحضرت ﷺ کا اہتمام شاید اس لیے تھا، کہ لوگوں کی نگاہوں میں اس گناہ کا ارتکاب معمولی بات ہے، اس کے بارے میں لا اُبالی پن بھی زیادہ ہے، اور اس کی خرابی کا واقع ہونا زیادہ سہل ہے، کیونکہ شرک سے مسلمان نفرت کرتا ہے، اور والدین کی نافرمانی سے انسانی طبیعت ابا کرتی ہے۔“

حافظ ابن حجر فرائد حدیث بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اس سے جھوٹی گواہی کی سنگینی [ثابت ہوتی] ہے، کیونکہ اس کی بنا پر کئی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔

ب۔ عباد الرحمن کے اوصاف کے منافی:

جھوٹی گواہی کی خرابی کے دلائل و براہین میں سے ایک یہ ہے، کہ یہ رحمن کے بندوں کے اوصاف کے منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾

[اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔]

قاضی ابوسعود اس کی تفسیر میں تحریر کرتے ہیں: ”وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، یا وہ جھوٹ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، کیوں کہ باطل کا [انکار کیے بغیر] دیکھنا، اس میں شریک ہونا ہے۔“

علاوہ ازیں امام بخاری نے اپنی کتاب [اصحیح] میں ایک باب کا عنوان ان الفاظ

① منقول از: فتح الباری ۱/۱۰-۴۱۲۔ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۱۰/۴۱۲۔

② سورة الفرقان/ جزء من الآية ۷۲۔

③ تفسیر ابی السعود ۱/۶-۲۳۰؛ نیز ملاحظہ ہو: تفسیر الکشاف ۱/۳-۱۰۱؛ و تفسیر القاسمی ۱۲/۲۸۲۔

ذکر کیا ہے:

[بَابُ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿وَالَّذِينَ

لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾]

[جھوٹی گواہی کے بارے میں جو کہا گیا ہے، اس کے متعلق باب اللہ تعالیٰ

کے ارشاد کی بنا پر: (اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔) ❶

حافظ ابن حجر نے اپنی شرح میں لکھا ہے: ”امام بخاری کے قول (جھوٹی گواہی کے

بارے میں جو کہا گیا ہے) سے مراد یہ ہے، کہ اس کی سنگینی اور اس کے متعلق وعید کے

بارے میں امام بخاری نے ارشادِ ربانی: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ کے

ساتھ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ اس میں جھوٹی گواہی دینے والوں کی

نذمت کی گنتی ہے۔ ❷

8

مال کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

جھوٹ کی فبیج ترین صورتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ کوئی شخص دنیاوی حقیر مال

کی خاطر جھوٹی قسم کھائے۔

ا: اس گناہ کی سنگینی:

اس گناہ سے روکنے اور اس کے کرنے والے کے بُرے انجام کے متعلق متعدد

نصوص وارد ہوئی ہیں، انہی میں سے ایک درج ذیل ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ

لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ❶

❶ صحیح البخاری، کتاب الشہادات، ۲۶۱/۵.

❷ سورۃ آل عمران/ الآیۃ ۷۷.

❸ ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲۶۱/۵.

[بلاشبہ جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ روزِ قیامت نہ ان سے ہم کلام ہوں گے، اور نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔]

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے شدید ترین سزاؤں کی وعید سنائی ہے، جو کہ دنیا کے حقیر ساز و سامان کی خاطر عہد توڑتے اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔^①

آیت کریمہ میں درج ذیل پانچ قسم کی سزاؤں کی وعید ہے:

۱: ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں: ﴿أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾. ﴿لَا خَلَاقَ﴾ کی تفسیر میں امام بخاری نے لکھا ہے: ”لا خیر“^② یعنی کوئی خیر ان کے لیے نہ ہوگی۔

حافظ ابن کثیر نے تحریر کیا ہے، کہ اس سے مراد ”لَا نَصِيبَ لَهُمْ فِيهَا، وَلَا حَظٌّ لَهُمْ مِنْهَا“^③ ہے یعنی ان کے لیے آخرت میں بالکل کوئی حصہ نہیں۔

۲: اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہ فرمائیں گے ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ﴾: اس کی تفسیر میں متعدد اقوال میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱۔ یعنی ان سے اس طرح گفتگو نہ فرمائیں گے، کہ جس طرح نیک اعمال کرنے والوں سے خوش اور راضی ہو کر گفتگو کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ غصے اور ناراضگی کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے۔

① ملاحظہ ہو: أيسر التفاسير ۲۷۸/۱.

② ملاحظہ ہو: صحيح البخاری، كتاب التفسير، ۲۱۲/۸.

③ ملاحظہ ہو: تفسير ابن كثير ۴۰۲/۱؛ نیز دیکھیے: عمدة القاري ۲۰۶/۱۱.

ب۔ ان سے ایسی بات چیت نہ کریں گے، جس سے انہیں فائدہ اور مسرت ہو۔^۱
 ج۔ اللہ تعالیٰ ان سے بالکل ہم کلام ہی نہ ہوں گے۔^۲
 ۳: اللہ تعالیٰ ان کی طرف روزِ قیامت کو نہیں دیکھیں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:
 ﴿وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ یعنی وہ نظرِ رحمت سے انہیں نہ دیکھیں گے۔^۳

۴: اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہ کریں گے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾
 یعنی نہ تو ان کی تعریف کریں گے اور نہ ہی انہیں گناہوں کی آلودگی سے پاک کریں گے۔^۴

۵: ان کے لیے عذاب الیم ہو گا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ اور [أَلِيمٌ] سے مراد درد دینے والا۔^۵
 روزِ قیامت ان پانچ عذابوں میں بتلا شخص کس قدر بد نصیب ہو گا! شیخ ابو بکر الجزارمی نے تحریر کیا ہے، کہ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، کہ مال کی وجہ سے عہد شکنی کرنے والے اور جھوٹی قسم کھانے والے کا گناہ کس قدر سنگین ہے۔^۶
 ب: مال کی خاطر جھوٹی قسم کی دو شکلیں:

۱: مال کی غرض سے جھوٹی قسم کھانے کی متعدد اشکال میں سے دو درج ذیل ہیں:
 ا: مال مسلم ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

- ۱ ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱/۱۶۲؛ نیز دیکھیے: تفسیر ابن کثیر ۱/۴۱۲۔
- ۲ ملاحظہ ہو: فتح القدیر ۱/۵۳۴؛ نیز دیکھیے: تفسیر أبي السعود ۲/۵۱۔
- ۳ ملاحظہ ہو: تفسیر ابن کثیر ۱/۴۰۲؛ نیز ملاحظہ ہو: فتح القدیر ۱/۵۳۴۔
- ۴ ملاحظہ ہو: تفسیر أبي السعود ۲/۵۱، نیز ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۱/۲۰۶؛ و تفسیر القاسمي ۱/۱۲۵۔
- ۵ ملاحظہ ہو: صحيح البخاري، كتاب التفسير، ۲۱۲/۸۔
- ۶ ملاحظہ ہو: أيسر التفاسير ۱/۲۷۹۔

۲: سودا فردخت کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

①

مالِ مسلم ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

اس بات کی مذمت اور بُرے انجام کے بارے میں چند نصوص درج ذیل ہیں:

۱: بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک:

۱۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں

نے بیان کیا: ”ایک بدو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا:

”یا رسول اللہ! کبائر کون سے ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ“

”اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔“

اس نے عرض کیا: ”ثُمَّ مَاذَا؟“

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

”پھر کون سا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ.“

”والدین کی نافرمانی کرنا۔“

اس نے عرض کیا: ”ثُمَّ مَاذَا؟“

”پھر کون سا ہے؟“

آپ ﷺ نے فرمایا: ”الْيَمِينُ الْعَمُوسُ.“

”یَمینِ غموس ہے۔“

میں نے پوچھا: ﴿وَمَا الْيَمِينُ الْعَمُوسُ؟﴾

① پوچھنے والے حدیث شریف کے ایک راوی فراس ہیں اور جواب دینے والے ان کے استاذ عامر الشعمی

ہیں۔ (ملاحظہ ہو: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان

بأن هذا العدد المذكور لم يرد به النفي عمادونه، رقم الحديث ٥٥٦٢، ٣٧٣/١٢؛ نیز

ملاحظہ ہو: فتح الباري ٥٥٦/١١.

”یہیں غمبوس کیا ہے؟“

انہوں نے جواب دیا: ”الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، هُوَ فِيهَا

كَاذِبٌ“

”کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جان بوجھ کر کھائی جانے والی

چھوٹی قسم۔“ ●

اس حدیث شریف میں موجود لفظ [الْكِبَائِرُ] [بڑے گناہ] سے مراد [اَكْبَرُ

الْكِبَائِرِ] [بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ ہیں]۔ اس بات پر امام

احمد کی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے حوالے سے روایت کردہ حدیث

دلالت کرتی ہے، کہ اس میں [الْكِبَائِرِ] کی بجائے [اَكْبَرُ الْكِبَائِرِ] کے الفاظ ہیں۔ ●

اس بات کی تائید امام ترمذی کی حضرت عبداللہ بن انیس الجعفی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے

روایت کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ●

خلاصہ گفتگو یہ ہے، کہ بہت ہی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ کسی مسلمان

کا مال ہڑپ کرنے کی غرض سے چھوٹی قسم کھانا ہے۔ اس بات کی تائید امام طبرانی کی

حضرت ابو رحم السعفی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کردہ حدیث سے بھی ہوتی ہے، کہ

انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْخَطَايَا مَنْ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ

حَقِّ.“ ●

① صحیح البخاری، کتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله

وعقوبته في الدنيا والآخرة، رقم الحديث ۲۶۴۱۲۰، ۶۹۲۰۔

② ملاحظہ ہو: فتح الباری ۵۵۷/۱۱۔ ● یہ حدیث ص ۱۵۸-۱۵۹ پر ملاحظہ فرمائیے۔

③ منقول از: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، کتاب الأیمان والنذور، باب فیمن یحلف یمیناً

کاذباً یقتطع بها مالاً، جزء من الحدیث، ۱۸۱/۴۔ حافظ ثقفی نے اس کے متعلق لکھا ہے: ⇨

”اور بلاشبہ سب سے سنگین گناہوں میں سے اس شخص کا گناہ ہے، جو کسی مسلمان کا مال ناحق حاصل کرتا ہے۔“

ب: نبی ﷺ کی ایسے شخص کے لیے بددعا:

امام احمد نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں گواہی دیتا ہوں، کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

” وَمَنْ أَقْطَعَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينٍ فَلَا بَرَكَ لَهٗ فِيهَا. “

”اور جو شخص کسی مسلمان کا مال قسم کے ساتھ ناحق حاصل کرے، تو اللہ

تعالیٰ اس [کی قسم] میں برکت نہ فرمائے۔“

رحمت دو عالم ﷺ کی بددعا کو پانے والا شخص کس قدر بد نصیب ہے! اس مال کا کیا فائدہ، کہ اس کے حصول کے لیے اٹھائی جانے والی قسم حبیب رب العالمین ﷺ کی بددعا کی وجہ سے خالی از برکت ہو!

اے اللہ کریم! ہمیں ایسے مال، اور ایسی قسم سے تازندگی محفوظ رکھنا۔ آمین یا رب العالمین۔

ج: جھوٹی قسم کا مال کو ختم کر دینا:

امام بزار نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

”الطمرانی نے اس کو [المعجم] الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کے راویان ثقہ ہیں، بعض کے بارے میں کلام کی گئی ہے [لیکن] اس سے کچھ ضرر نہیں۔“ (المرجع السابق ۱۸۱۴)۔

● المسند، جزء من رقم الحدیث ۱۶۴۰/۳، ۱۱۳/۳۔ شیخ احمد شاکر نے اس کی [اسناد کو صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۱۱۳/۳)؛ حافظ بیہقی نے اس کے راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد ۱۷۹/۴)۔

”الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُذْهَبُ الْمَالُ أَوْ تَذْهَبُ بِالْمَالِ.“
 ”جھوٹی قسم مال کو ختم کر دیتی ہے۔“

رب کعبہ کی قسم! وہ شخص ناکام و نامراد ہو گیا، جس نے مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھائی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو ہی اس کے مال کی بربادی کا سبب بنا دیا۔ اللہ کریم ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایسے بے نصیب لوگوں میں شامل نہ فرمائیں۔ إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ.

د: جھوٹی قسم کا گھروں کو اجاڑ دینا:

امام بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”وَالْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تَدْعُ الدِّبَارَ بِبَلَاغِهِ.“

”جھوٹی قسم گھروں کو چھیل اور ویران کر دیتی ہے۔“

جھوٹی قسم کا ضرر کس قدر سنگین اور وسیع ہے! اس کا اثر صرف قسم کھانے والے پر ہی نہیں، بلکہ جن گھروں اور بستیوں میں اس کا چلن ہو جائے، ان کی بھی خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے عالم اسلام کے گھروں اور بستیوں کو اس سے پاک فرمادیں۔ آمین یا حي یا قيوم.

ہ: روزِ قیامت تک دل میں نقطہ کا سبب ہونا:

حضرات امہ احمد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے حضرت عبداللہ بن انیس الجعفی رضی اللہ

① منقول از: الترغیب والترہیب، کتاب البیوع وغیرہا، الترہیب من الیمین الکاذبۃ الغموس، رقم الحدیث ۶۲۲/۲۰۹. شیخ البانی نے اس کو [الحسن لغیرہ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح الترغیب والترہیب ۳۶۸/۲).

② منقول از: الترغیب والترہیب، کتاب البیوع وغیرہا، الترہیب من الیمین الکاذبۃ الغموس، جزء من رقم الحدیث ۶۲۲/۲۰۱۰. شیخ البانی نے اس کو [الحسن لغیرہ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح الترغیب والترہیب ۳۶۸/۲).

سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ،
وَالْيَمِينَ الْعُمُوسَ ، وَمَا حَلَفَ بِاللَّهِ يَمِينًا صَبْرًا ، فَأَدْخَلَ فِيهَا
مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا جُعِلَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .“ ❶

” بلاشبہ بہت ہی بڑے گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا،
والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی قسم کھانا ہے۔ کوئی بھی جھوٹی قسم کے
ذریعے چھھر کے پر کے برابر کوئی چیز [اپنے مال میں] شامل نہیں کرتا، مگر
روزِ قیامت تک کے لیے اس کے دل میں نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔“

اس حدیث شریف کے حوالے سے درج ذیل تین باتوں کی طرف توجہ دلانا شاید
مناسب ہو:

۱: آنحضرت ﷺ نے تین بہت بڑے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد، تیسرے
کے بارے میں خصوصی وعید سنائی۔ علامہ طیبی نے اس کی حکمت بیان کرتے
ہوئے تحریر کیا: آنحضرت ﷺ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا، اور پھر تیسرے
کے بارے میں خصوصی طور پر وعید سنائی، تاکہ سامعین اس حقیقت سے آگاہ ہو

❶ المسند، رقم الحدیث ۴۳۶، ۴۳۵، ۲۵، ۱۶، ۰۴۳ (ط: مؤسسة الرسالة)؛ وجامع الترمذی ،
أبواب تفسير القرآن، ومن سورة النساء ، رقم الحدیث ۳۲۱۰ ، ۲۹۶/۸ - ۲۹۷ ؛
والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب الحظر والإباحة، ذكر البيان بأن اليمين
العموس الذي وصفناه من الكبائر ، رقم الحدیث ۳۷۴/۱۲، ۵۵۶۳؛ والمستدرک علی
الصحيحين ، كتاب الأيمان والنذور ۲۹۶/۴۔ الفاظ حدیث جامع الترمذی کے ہیں۔ اور امام
ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث [حسن غریب] ہے۔ (ملاحظہ ہو: جامع الترمذی ۲۹۷/۸)؛ امام حاکم
نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے اور حافظ ذہبی نے ان سے موافقت کی ہے۔ (ملاحظہ ہو: المستدرک
۲۹۶/۴؛ والتلخیص ۲۹۶/۴)؛ حافظ ابن حجر نے اس کی [اسناد کو حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو:
فتح الباری ۴۱۱/۱۰)؛ اور شیخ البانی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن
الترمذی ۳۸/۳)۔

جائیں، کہ یہ بھی پہلے دو گناہوں کی طرح بہت بڑے گناہوں میں سے ہے اور اس غلط فہمی کی بنا پر، کہ یہ ان میں سے نہیں، کہیں اس کے ارتکاب میں تساہل کا شکار نہ ہو جائیں۔^۱

۲: جھوٹی قسم تا قیامت دل میں نکتہ لگائے جانے کا سبب بنتی ہے، اگرچہ اس سے حاصل شدہ چیز چھھر کے پر کے برابر ہو۔ ملا علی قاری شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں: اس سے مراد انتہائی قلیل چیز ہے۔ اور مقصود یہ ہے کہ جھوٹ اور بددیانتی کتنی معمولی ہی کیوں نہ ہو، وہ تا قیامت دل میں نکتہ لگائے جانے کا سبب بنتی ہے۔^۲

اور جب معمولی سے جھوٹ کا یہ اثر ہوگا، تو بڑے بڑے جھوٹوں کے اثرات کس قدر خوف ناک ہوں گے!

۳: آنحضرت ﷺ نے جھوٹی قسم کے اثر کا تا روز قیامت باقی رہنے کی وعید سنائی۔ اس بارے میں علامہ طیبی نے تحریر کیا ہے: قیامت تک اس نکتہ کے باقی رہنے سے مراد اس جھوٹی قسم کی بنا پر دل پر آلودگی کا باقی رہنا ہے۔ پھر قیامت کو اس کی وجہ سے وبال اور عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔^۳

و: دوزخ میں داخلہ اور جنت سے محرومی:

امام مسلم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ یقیناً رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ اَقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ

۱ ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲/۶۱۸/۸؛ نیز ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۳/۴۱۷/۷۔

۲ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۳/۴۱۷/۷؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲/۶۱۸/۸۔

۳ ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۲/۶۱۸/۸۔

النَّارَ وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.“

”جس شخص نے اپنی قسم سے مسلمان شخص کا حق ہڑپ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے [دوزخ کی] آگ کو واجب کر دیں گے اور جنت کو اس پر حرام کر دیں گے۔“

ایک شخص نے آپ ﷺ سے استفسار کیا:

”وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“

”یا رسول اللہ! اور اگرچہ وہ معمولی سی چیز بھی ہو۔“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَإِنْ قَضِيًّا مِنْ أَرَاكٍ.“

”اگرچہ وہ مسواک کی لکڑی ہو۔“

اس حدیث شریف میں ہم دیکھتے ہیں، کہ جھوٹی قسم، اگرچہ وہ صرف کسی مسلمان کی مسواک ناجائز طور پر حاصل کرنے کی خاطر کھائی گئی ہو، دوزخ میں داخلہ کے واجب کرنے اور جنت کے حرام ہونے کا سبب بنتی ہے۔

امام نووی نے تحریر کیا ہے: ”اس میں مسلمانوں کے حقوق کی شدید حرمت کا بیان ہے، اور نبی کریم ﷺ کے ارشاد گرامی: ”اگرچہ مسواک کی لکڑی ہو“ کی بنا پر تھوڑے اور زیادہ حق [کی حرمت] میں فرق نہیں۔“^① [جس طرح مسلمانوں کے زیادہ حق کو ناجائز طور پر سلب کرنا حرام ہے، اسی طرح ان کا معمولی حق غصب کرنا بھی حرام ہے۔]

① صحیح مسلم، کتاب الأیمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم یمنین فاجرة بالنار، رقم

الحدیث ۲۱۸۔ (۱۳۷)، ۱۲۲/۱۔

② شرح النووی ۱۶۲/۲۔

علامہ ابی نے شرح حدیث میں لکھا ہے: اس قسم کا گناہ سنگین ہوگا، کیونکہ وہ [غموس] ہے اور [غموس] مہلک کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑے گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اس میں ظاہری طور پر حرام کو حلال قرار دے کر اور باطل کو حق کی شکل میں پیش کر کے شریعت کے حکم کو تبدیل کرنا بھی ہے۔^❶

دو تنبیہات:

میں اس مقام پر درج ذیل دو باتوں کی طرف تنبیہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں:

❶: حدیث شریف میں مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم سے ہڑپ کرنے کی وعید کا یہ مقصود نہیں، کہ غیر مسلم کا حق جھوٹی قسم سے ہضم کرنا جائز ہے۔ اس بارے میں قاضی عیاض نے تحریر کیا ہے: مسلمان کا خصوصیت سے ذکر اس لیے کیا گیا ہے، کیوں کہ شریعت کے مخاطبین اور اس پر عمل کرنے والے عام طور پر مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں، کہ غیر مسلم کا حکم اس کے برعکس ہے، بلکہ اس بارے میں اس کا حکم وہی ہے، جو مسلمان کا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔^❷

اسی سلسلے میں علامہ طیبی لکھتے ہیں: مسلمان کے ساتھ حکم کے مخصوص کرنے کا مقصد یہ نہیں، کہ جھوٹی قسم کے ساتھ ذمی کا حق غصب کرنا درست ہے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے، کہ مسلمان کے حق کو غصب کرنے کی سنگینی کے پیش نظر یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، کیونکہ اخوت اسلامی کا تقاضا تو یہ ہے، کہ مسلمان کے حقوق و واجبات کو ادا کیا جائے۔ اس بنا پر یہ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی، کہ غیر مسلم کے حق کو ناجائز ہڑپ کرنا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔^❸

❶ ملاحظہ ہو: إكمال إكمال المعلم ۴۰۶/۱.

❷ منقول از: شرح نووی ۱۶۲/۲.

❸ ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲۶۱۰/۱۸؛ نیز ملاحظہ ہو: إكمال إكمال المعلم ۴۰۶/۱.

۲: آنحضرت ﷺ کے ارشادِ گرامی: [فَقَدْ أُوجِبَ لِلَّهِ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ] • سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا مال ہڑپ کرنے والا ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا، لیکن علمائے اُمت نے اس کی درج ذیل دو تاویلات بیان کی ہیں:

۱۔ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے، جو ایسا کرنا جائز سمجھتا ہو، اور اسی عقیدے پر اس کی موت ہو جائے، تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا۔
 ب۔ وہ اپنی ایسی جھوٹی قسم سے ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہنے کا مستحق ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے، تو اس کو معاف فرما دیں گے۔ اسی طرح جنت کے اس پر حرام ہونے کا معنی یہ ہے، کہ وہ ابتدا میں کامیاب لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلے سے محروم ہونے کا مستحق ٹھہرا۔ •

ز: روزِ قیامت پانچ قسموں کا عذاب:

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ - وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ
 امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِقِيَّ اللَّهِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ.“

”جس شخص نے کسی مسلمان کا مال بٹورنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ اس پر غضبناک ہوں گے۔“

انہوں نے بیان کیا: اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”اللہ تعالیٰ کی قسم! یہ بات میری

① یعنی اس پر اللہ تعالیٰ نے [دوزخ کی] آگ کو واجب کر دیا، اور اس پر جنت کو حرام کر دیا۔

② ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱۶۱/۲-۱۶۲؛ وشرح الطیبی ۴۲۶/۸ نیز ملاحظہ ہو: المفہم

وجہ سے تھی۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان زمین [کا تنازعہ] تھا، تو وہ مکر گیا۔ میں نے اس کو نبی کریم ﷺ کے رُو برو پیش کیا، تو رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے پوچھا: ”کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟“

”میں نے عرض کیا: ”نہیں۔“

”آنحضرت ﷺ نے یہودی سے فرمایا: ”قسم اٹھاؤ۔“

”میں نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! وہ تو قسم اٹھا کر میرا مال لے جائے گا۔“

”تو اللہ تعالیٰ نے یہ [آیت کریمہ] نازل فرمائی:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا..... إِلَىٰ

آخر الآية ﴿﴾

ح: کسی کے مال پر ناحق دعویٰ کا عبرتناک انجام:

امام مسلم نے حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ اروی نے ان کے ساتھ کسی گھر کے بارے میں تنازعہ کھڑا کیا۔

- ① سورة آل عمران/ الآية ۷۷۔ یہ آیت کریمہ، اس کا ترجمہ اور اس میں بیان کردہ پانچ قسموں کے عذاب کا قدرے تفصیلی ذکر کتاب ہذا کے ص ۱۵۲ میں ملاحظہ فرمائیے۔
- ② ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، کتاب الشهادات، باب سؤال الحاكم المدعی، هل لك بينة قبل اليمين؟ رقمی الحدیثین ۲۶۶۶، ۲۶۶۷، ۲۷۹/۵، ۲۸۰۔
- ③ صحیح مسلم ہی میں ایک دوسری روایت میں ہے: اروی بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے خلاف مروان بن حکم کے رُو برو دعویٰ کیا، کہ انہوں نے اس کی کچھ زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، کتاب المسافاة، باب تحريم الظلم و غصب الأرض وغيرها، جزء من رقم الرواية ۱۳۹- (۱۶۱۰)، (۱۲۳۱/۳)۔ اور حافظ ذہبی نے نقل کیا ہے: ”اروی بنت اویس نے محمد بن عمرو بن حزم کے پاس آ کر شکایت کی کہ ”بلاشبہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ نے میری جگہ میں [خسفیرہ] بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم! اگر انہوں نے نہ کیا [یعنی میری جگہ خالی نہ کی]، تو میں ان کے خلاف رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں چیخوں گی۔“ (منقول از: سیر اعلام النبلاء ۱/۱۰۶)۔

انہوں نے فرمایا: ”اس کو وہ گھر دے دو، میں نے بلاشبہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

” مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ فِي سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةٌ فَأَعْمِ بَصَرَهَا ، وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا. “

”جس شخص نے کسی کی بالشت کے برابر جگہ ناحق حاصل کی، تو روز قیامت اس کو اسی [مکڑہ زمین] کا سات زمینوں سے طوق پہنایا جائے گا۔“
 ”اے اللہ! اگر یہ جھوٹی ہے، تو اس کی بینائی کو سلب کر لیجیے، اور اس کے گھر میں ہی اس کی قبر بنائیے۔“^①

راوی نے بیان کیا: ”میں نے اس کو دیواروں کو چھوتے ہوئے اندھے پن میں دیکھا، اور وہ کہتی تھی: ”مجھے سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی۔“
 ایک دن وہ گھر میں چلتے ہوئے گھر میں موجود کنویں پر سے گزری، تو اس میں گر پڑی، اس طرح وہی کنواں اس کی قبر بنا۔“^②

① ایک دوسری روایت میں ہے: ”انہوں نے فرمایا: ”وہ ضرور آئے اور اپنا حق لے لے۔ اے اللہ! اگر اس نے مجھ پر جھوٹ باندھا ہے، تو اس کی بینائی کو سلب کیے بغیر، اس کو موت نہ دینا اور اس کی موت اسی جگہ میں فرمانا۔“ اس کے پاس جاؤ اور اس کو یہ پیغام دے دو۔“
 وہ آئی اور [ضفیرہ] کو گرایا اور [اس کی جگہ] گھر بنایا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا، تو وہ اندھی ہو گئی۔ وہ رات میں اٹھا کرتی تھی اور اس کے ساتھ اس کی لونڈی ہوتی تھی۔ ایک رات اٹھی، تو اس نے باندی کو بیدار نہ کیا، کنویں میں گری اور فوت ہو گئی۔ (سیر أعلام النبلاء ۱۰۶/۱-۱۰۷)۔ [الضفیرة] سے مراد اونٹ کی کوہان کی مانند مستطیل شکل کا ککڑی اور پتھروں کا بنایا ہوا کمرہ ہوتا ہے۔ (ملاحظہ ہو: النہایة فی غریب الحدیث والأثر، مادة ”ضفر“، ۹۲/۳؛ وغریب الحدیث للمحافظ ابن الجوزی، باب المضاد مع الفاء، ۱۳/۲)۔

② صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم الظلم و غصب الأرض و غیرها، رقم الحدیث ۱۳۸- (۱۶۱۰)، ۱۲۳۰/۳-۱۲۳۱۔

اس عورت پر عذاب کس قدر جلد آیا! اور وہ کتنا عبرت ناک تھا! یہ سزا کسی کے مال کے بارے میں ناحق دعوے کی وجہ سے تھی، اور جب ایسے دعوے کے ساتھ جھوٹی قسم بھی ہو، تو سزا کس قدر مزید سنگین ہوگی!

اللہ کریم ہم سب کو جھوٹے دعووں اور ان پر جھوٹی قسمیں کھانے سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

2

سودا فروخت کرنے کی خاطر جھوٹی قسم کھانا

جھوٹی قسم کھانے کی شکلوں میں سے ایک سودا فروخت کرنے کی غرض سے جھوٹی قسم کھانا ہے۔ آنحضرت ﷺ نے اس کے بُرے انجام سے بھی اپنی اُمت کو آگاہ فرمایا ہے۔ حضرات ائمہ احمد، مسلم، ابوداؤد اور ابن حبان نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.“

”تین [اقسام کے لوگ] روزِ قیامت اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے گفتگو فرمائیں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان ہی کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔“

ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا:

”خَابُوا وَخَسِرُوا! مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟“

”وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے! یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہیں؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَانُ، وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ.“
 ”[چادر کو] نیچے کرنے والا، احسان جتلانے والا اور اپنا سودا جھوٹی قسم
 سے فروخت کرنے والا۔“

ان بد بخت لوگوں کا انجام کس قدر بُرا ہے! اے رب کریم! ہم گناہ گاروں کو
 ایسے بدنصیب لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا ذا الجلال والإكرام۔

امام ابن حبان نے اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے:
 [ذِكْرُ الْبَيَانِ أَنَّ اللَّهَ جَلٌّ وَعَلَا لَا يَنْظُرُ فِي الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ
 نَفَقَ سَلَعَتَهُ فِي الدُّنْيَا بِالْيَمِينِ الْكَاذِبَةِ].^❶

[اس بات کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی طرف نہ
 دیکھے گا، جس نے دنیا میں اپنا سودا جھوٹی قسم کے ساتھ فروخت کیا۔]

امام نووی نے صحیح مسلم میں اس حدیث پر درج ذیل عنوان ذکر کیا ہے:

[بَابُ بَيَانِ غِلْظِ تَحْرِيمِ اِسْبَالِ الْاِزَارِ، وَالْمَنْ بِالْعَطِيَّةِ،
 وَتَنْفِيقِ السَّلَعَةِ بِالْحَلْفِ، وَبَيَانِ الثَّلَاثَةِ الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ].^❷

[چادر نیچے لگانے، احسان جتلانے اور جھوٹی قسم کے ساتھ سودا فروخت
 کرنے کی شدید حرمت کے بیان کے متعلق باب۔ اور ان تین [اقسام
 کے] لوگوں کا بیان، جن کے ساتھ روز قیامت نہ تو اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائیں

❶ المسند، رقم الحدیث ۲۱۳۱۸، ۲۴۵/۳۵؛ وصحیح مسلم، کتاب الإیمان، رقم
 الحدیث ۱۷۱۔ (۱۰۶)، ۱۰۲/۱؛ وسنن أبي داود، کتاب اللباس، باب ما جاء في إسبال
 الإزار، رقم الحدیث ۴۰۸۱، ۹۷/۱۱؛ والإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، کتاب
 البيوع، رقم الحدیث ۴۹۰۷، ۲۷۲/۱۱۔ الفاظ حدیث صحیح مسلم کے ہیں۔

❷ صحیح مسلم، کتاب الإیمان ۱۰۲/۱۔

❸ المرجع السابق ۲۷۲/۱۱۔

گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے اور نہ ان کا تذکرہ فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ [حدیث شریف کے متعلق دو باتیں:

ا: مذکورہ بالا تینوں اقسام کے لوگوں کو ایک ہی حدیث میں جمع کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ طیبی نے تحریر کیا ہے: ”ان تینوں کو ایک ہی سلسلہ میں اس لیے جمع کیا گیا ہے، کہ چادر نیچے گرانے والا متکبر ہوتا ہے، جو کہ بزم خود لوگوں سے بلند ہوتا ہے اور لوگوں کو کم تر اور حقیر تصور کرتا ہے، احسان جتلانے والا یہ سمجھتے ہوئے ایسا کرتا ہے، کہ سائل پر اس کا احسان ہے اور وہ اس سے بلند ہے، قسم اٹھا کر سودا فروخت کرنے والا صرف اپنے ہی مفاد کا خیال رکھتے ہوئے دوسرے شخص کے حق کو ہضم کرتا ہے۔ تینوں اقسام کے لوگوں میں مشترک بات یہ ہے، کہ وہ دوسروں کی پروا نہیں کرتے، صرف اپنی ذات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی بنا پر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کی طرف توجہ اور التفات نہ فرمائیں گے، جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے اس طرف اشارہ فرمایا: ”تین [اقسام کے لوگوں] سے اللہ تعالیٰ روزِ قیامت ہم کلام نہ ہوں گے۔“ ❶

ب: حدیث شریف میں ان تینوں اقسام کے لوگوں کی سزا کو ان کے بُرے اعمال سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ طیبی نے اس سلسلے میں خود ہی سوال اٹھا کر جواب دیتے ہوئے تحریر کیا ہے: ”تا کہ ان اعمال کی سزا کی شدت کو واضح کیا جائے۔ سننے والوں کے ذہن میں ان اعمال کے مرتکبین کے انجام کی سنگینی کا تصور پیدا ہو، اور وہ اس بارے میں خود ہی سوچ و بچار کریں۔ اسی لیے تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھے: ”وہ ناکام و نامراد ہو گئے! وہ کون لوگ ہیں؟“

اور اگر یوں کہا جاتا: ”چادر لٹکانے والا، احسان جتلانے والا، اور اپنے سودے

کو جھوٹی قسم سے فروخت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ ہم کلام نہ ہوں گے.....“ تو حدیث شریف کا ایسا اثر نہ ہوتا۔ اسی طرح ایک شاعر کا قول ہے:

ثَلَاثَةٌ تُشْرِقُ الدُّنْيَا بِبَهْجَتِهَا
شَمْسُ الصُّحَى وَأَبُو إِسْحَاقَ وَالْقَمَرُ ❶

[تین کی چمک سے دنیا منور ہے: وقتِ چاشت کا سورج، ابواسحاق اور چاند۔]

جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی تین شکلیں:

کتاب و سنت میں جھوٹی قسم کے ساتھ سودا بیچنے کی بیان کردہ صورتوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱: قیمت خرید کے متعلق جھوٹی قسم کھانا:

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”ثَلَاثٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ، يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسُلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَحَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ لَا خَدَّهَا بِكَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ؛ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا. فَإِنْ أُعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ.“ ❷

”تین [اقسام کے لوگوں] سے اللہ تعالیٰ روزِ قیامت ہم کلام نہ ہوں گے،

❶ ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۲۱۱۷/۷.

❷ صحیح مسلم، کتاب الإیمان، باب بیان غلظ تحریم إسبال الإزار، والعمن بالعطية، وتنفيق

السلعة بالحلف، رقم الحدیث ۱۷۳- (۱۰۸)، ۱۰۳/۱.

نہ ان کی طرف دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے اور ان ہی کے لیے دردناک عذاب ہے: [پہلی قسم] ویران جگہ میں زائد از ضرورت پانی والا، لیکن وہ مسافر کو اس سے لینے نہ دے [دوسری قسم] عصر کے بعد سودا بیچنے والا، کہ وہ قسم کھائے، کہ اس نے اس [چیز] کو اس اس قیمت سے خریدا ہے، وہ [گاہک] اس کو سچا سمجھے، حالانکہ وہ ایسے نہ ہو۔ [تیسری قسم] صرف دنیا کی خاطر کسی امام کی بیعت کرنے والا، اگر وہ اس کو دنیوی فائدہ پہنچائے، تو وفا کرے، وگرنہ بے وفائی کرے۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے مال بیچنے کی غرض سے جھوٹی قسم کی یہ صورت بتلائی ہے، کہ سودا فروخت کرنے والا، اپنی قیمت خرید غلط بتلاتا ہے اور گاہک کو یقین دلانے کی خاطر جھوٹی قسم کھاتا ہے۔

علامہ قرطبی شرح حدیث میں تحریر کرتے ہیں: اس نے جھوٹ بول کر اپنی قیمت خرید زیادہ بتلائی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر ان کے اسم مبارک کی اہانت کی اور ناحق دوسرے شخص کا مال حاصل کیا، اس طرح اس نے کبیرہ گناہوں کو جمع کیا اور اس شدید وعید کا مستحق قرار پایا۔ ●

جھوٹی قسم کا ذکر کرتے ہوئے نماز عصر کے بعد کے وقت کا خصوصی طور پر ذکر کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے تحریر کیا ہے: میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے، کہ نماز عصر درمیانی نماز [الصلاة الوسطی] ہے اور اس نماز کی شان و عظمت باقی نمازوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اس لیے اس نماز کے ادا کرنے والے کو چاہیے، کہ وہ اس کے بعد اپنے دین کی حفاظت اور زیادہ کرے، اور اپنی قسموں کا دیگر نمازوں کے بعد کی قسموں سے زیادہ خیال رکھے، کیوں کہ نماز تو بے حیائی اور برائی



سے روکتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ • جب سب نمازوں میں یہ بات ہے، تو نماز عصر میں تو یہ بات بطریق اولیٰ ہونی چاہیے۔ اسی لیے جس نے نماز عصر کے بعد کسی کا ناحق مال ہضم کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانے کی جسارت کی، تو اس کا گناہ زیادہ ہوگا اور اس کا دل زیادہ گندا ہوگا۔ • واللہ تعالیٰ اعلم۔

ب: سودے کی پیش کردہ قیمت کے متعلق جھوٹی قسم:

امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ ایک شخص نے بازار میں سودا لگایا، اور اس نے ایک مسلمان شخص کو پھنسانے کے لیے قسم کھائی، کہ اس کو وہ پیش کش کی گئی ہے، جو کہ حقیقی نہ تھی، تو اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ •

امام بخاری نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ] •

[فروختگی میں مکروہ قسم کے متعلق باب]

حافظ ابن حجر نے عنوان کی شرح میں تحریر کیا ہے: ”یعنی فروخت کرتے ہوئے بہر صورت قسم کھانا، مکروہ ہے۔ اگر جھوٹی ہو، تو مکروہ تحریمی • ہے، اور اگر سچی ہو، تو مکروہ تنزیہی ہے۔“ •

ایک اشکال کے متعلق وضاحت:

شاید کوئی اعتراض کرے، کہ گزشتہ صفحات میں حضرت عبداللہ بن

① سورة العنكبوت / جزء من الآية ٤٥ . [یعنی بلاشبہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔]

② ملاحظہ ہو: المفہم ٣٠٧/١ . سورة آل عمران / الآية ٧٧ - [ترجمہ: بلاشبہ جو لوگ اللہ

تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کے ساتھ تھوڑی قیمت حاصل کرتے ہیں۔] • صحیح البخاری، کتاب

البیوع، رقم الحدیث ٢٠٨٨، ٣١٦/٤ . المرجع السابق ٣١٦/٤ .

③ یعنی قسم کا نہ کھانا بہتر ہے۔ • ملاحظہ ہو: فتح الباری ٣١٦/٤ .

مسعود بنی اللہؓ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے، کہ اس آیت کا نزول حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ اور ایک یہودی شخص کے درمیان تنازعہ کے موقع پر ہوا تھا، ❶ اور حضرت عبداللہ بن ابی اونی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ بالا روایت سے اس کا شان نزول مختلف معلوم ہوتا ہے۔

اس اشکال کو توفیق الہی سے درج ذیل دو صورتوں میں دور کیا جاسکتا ہے:

ا: حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے: ”دونوں میں کوئی تعارض نہیں، کیوں کہ کہا جائے گا کہ آیت کریمہ کا نزول دونوں اسباب کی بنا پر تھا۔ اور آیت کریمہ کے الفاظ میں عموم ہے۔“ ❷

ب: نزول آیت سے مراد یہ ہے، کہ یہ آیت دونوں واقعات پر چسپاں ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں: ”ان [حضرات صحابہ] کا یہ کہنا کہ: ”اس بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔“ بسا اوقات اس سے مراد سبب نزول ہوتا ہے، اور بسا اوقات مقصود یہ ہوتا ہے، کہ یہ بھی اس آیت میں داخل ہے۔ ❸ اگرچہ وہ سبب [نزول] نہ بھی ہو، جیسے کہ آپ کہتے ہیں: ”اس آیت سے مقصود یہ ہے۔“ ❹

ج: مخصوص قیمت پر سودا فروخت نہ کرنے کی جھوٹی قسم: فروختگی کے موقع پر جھوٹی قسم کی ایک شکل یہ ہے، کہ بیچنے والا قسم کھائے، کہ میں اپنا مال اس قیمت پر ہرگز فروخت نہیں کروں گا، پھر جب گاہک کو منہ موڑتے دیکھے، تو اسی نرخ پر سودا بیچ دے۔ نبی کریم ﷺ نے اس قسم کی جھوٹی قسم کے بُرے انجام کو بیان کرتے ہوئے اس سے دُور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ امام ابن حبان نے حضرت ابو سعید

❶ فتح الباری ۳/۱۲۸

❷ کتاب کا ص ۱۶۳ دیکھیے۔

❸ یعنی اس بات پر بھی آیت کریمہ چسپاں اور منطبق ہوتی ہے۔

❹ منقول از: مقدمہ تفسیر القاسمی ۲۷/۱

الحدری رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”ایک بدو بکری لیے ہوئے گزرا، تو میں نے اس سے کہا: ”تین درہم کی فروخت کرو گے؟“
اس نے کہا: ”نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم۔“

پھر اس نے میرے ہاتھ [اسی قیمت پر] فروخت کر دی۔
میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاہُ.“

”اس نے اپنی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو بیچ دیا۔“

یہ سودا کس قدر خسارے کا ہے! اور اس کے کرنے والے کتنے زیادہ ہیں! اے اللہ! ہم کمزوروں کو ان میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا حی یا قیوم۔

امام ابن حبان نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[ذِكْرُ وَصْفِ الْبُعْضِ الْآخِرِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُبْغِضُ اللَّهُ جَلَّ

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY

www.pdfbooksfree.pk

وَعَلَا الْبِيَاعَ]

[ایک دوسرے وصف کا بیان جس کی بنا پر اللہ و علا بیچنے والے سے نفرت

کرتے ہیں۔]

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بدترین جھوٹ کی صورتوں میں سے ایک، جھوٹی قسم کا کھانا ہے اور اس کی متعدد شکلیں ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ نے ڈور رہنے کا حکم دیا ہے اور ان کے بُرے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ اللہ کریم ان سب شکلوں سے ہمیں محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

① الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، رقم الحديث ٤٩٠٩، ٢٧٦/١. شیخ

شعیب الارناؤوط نے اس کی [اسناد کو حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: ہامش الإحسان ٢٧٦/١١).

② الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، كتاب البيوع، ٢٧٦/١١.

تجارت میں جھوٹ

جھوٹ کی سنگین اقسام میں سے ایک تجارت میں جھوٹ بولنا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے اس کی نحوست بیان فرما کر اُمت کو اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق کچھ تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

ا: جھوٹ سے برکت کا خاتمہ:

امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی کریم ﷺ سے روایت نقل کی ہے، کہ آپ ﷺ نے بیان فرمایا:

”الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَالٌ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحَقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا.“^①

”لینے اور دینے والے، دونوں جدا ہونے تک [سودا منسوخ کرنے کا]

اختیار رکھتے ہیں۔ پس اگر دونوں نے سچی بات کہی اور [چیز کا عیب] بیان

کیا، تو ان کے لین دین میں برکت ڈالی جائے گی اور اگر دونوں نے جھوٹی

بات کہی اور [عیب کو] چھپایا، تو لین دین کی برکت کو اٹھالیا جائے گا۔“

اس حدیث شریف میں نبی کریم ﷺ نے بتلایا ہے، کہ سچی بات اور عیب کو

واضح کرنا تجارت کی برکت کا سبب بنتے ہیں اور جھوٹ اور عیب کا چھپانا اس کی برکت

کے اٹھائے جانا کا موجب بنتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے:

یعنی اگر لینے اور دینے والے، دونوں سودے اور اس کے معاوضے میں سچائی اختیار

① متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب البیعان بالخیار مالم یتفرقا، رقم

الحدیث ۲۱۱۰، ۳۲۸/۴؛ صحیح مسلم، کتاب البیوع، باب الصدق فی البیع والبیان،

رقم الحدیث ۴۷- (۱۰۳۲)، ۱۱۶۴/۳.

کریں اور ان کے عیوب واضح کریں، تو معاوضے میں اضافہ کی صورت میں، اور سودے میں دوام نفع سے برکت ہوگی، اور (مُحَقَّقَتْ) سے مراد یہ ہے کہ برکت کو اٹھالیا جائے گا۔

علامہ عینی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: ”برکت کے مٹائے جانے سے مراد یہ ہے، کہ تاجر مال میں جس اضافے اور بدھوتی کا قصد کر رہا تھا، اس کے برعکس اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ آنحضرت ﷺ نے برکت کو صدق و بیان کے ساتھ اور برکت کے اٹھائے جانے کو ان کی ضد چھپانے اور جھوٹ کے ساتھ مشروط فرما دیا۔

امام بخاری نے اس حدیث پر بایں الفاظ عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ مَا يَمْحَقُ الْكُذِبُ وَالْكَتْمَانُ فِي الْبَيْعِ].

[تجارت میں جھوٹ اور [عیب کا] چھپانا جو [یعنی برکت] ختم کرتا ہے

اس کے متعلق باب]

امام نسائی نے اس حدیث پر درج ذیل عنوان لکھا ہے:

[مَا يَجِبُ عَلَى التُّجَّارِ مِنَ التَّوْقِيَةِ فِي مَبَايِعَتِهِمْ].

[تاجروں پر اپنے لین دین میں جو احتیاط واجب ہے۔]

امام ابن حبان نے درج ذیل عنوان قلم بند کیا ہے:

[ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْبَيْعِينَ أَنْ يَلْزَمَ الصَّدَقَ فِي بَيْعِهِمَا ، وَيُسَيِّئًا عَيْنًا

عِلْمَاهُ ، لِأَنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْبُرْكََةِ فِي بَيْعِهِمَا].

[لینے دینے والوں کے لیے اپنے لین دین میں سچائی اور معلوم شدہ عیب کے بیان

کی پابندی کے حکم کا بیان، کیونکہ ایسا کرنا لین دین میں باعث برکت ہے۔]

① ملاحظہ ہو: المفہم ۱/ ۳۸۴-۳۸۵؛ نیز ملاحظہ ہو: شرح النووي ۱۰/ ۱۷۶، و فتح الباری

② ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۱۱/ ۱۹۰۔

③ صحيح البخارى ، كتاب البيوع ۴/ ۳۱۲۔ سنن النسائي ، كتاب البيوع ، ۷/ ۲۴۴۔

④ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ، كتاب البيوع ، ۱۱/ ۲۶۸۔

تنبیہات:

شرح حدیث میں محدثین کرام کی بیان کردہ مفید اور قیمتی تنبیہات میں سے چار ذیل میں توفیق الہی سے پیش کی جا رہی ہیں:

۱: حدیث شریف پر عمل کرنے والے کا ہی برکت پانا:

اگر لین دین میں دونوں میں سے ایک سچا اور عیب کا بیان کرنے والا ہے، تو وہ حدیث شریف میں بیان کردہ برکت حاصل کرتا ہے۔ اس سلسلے میں علامہ ابن ابی جمرہ نے تحریر کیا ہے: ”اگر ان دونوں میں سے ایک [حدیث پر] عمل کرے اور دوسرا نہ کرے، تو عمل کرنے والا برکت پائے گا، اور دوسرا نہ پائے گا۔ اگرچہ حدیث میں تو اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے، لیکن شریعت کے قواعد کا یہی تقاضا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾

[اور کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔]

نیز ارشاد فرمایا:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ﴾

[پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی، وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے

ذرہ برابر برائی کی ہوگی، وہ (بھی) اسے دیکھ لے گا۔]

اور ارشاد فرمایا:

﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا﴾

● سورة الزلزلة/ الآيات ۷-۸.

● سورة الأنعام/ جزء من الآية ۱۶۴.

● سورة الإسراء/ جزء من الآية ۷.

[اگر تم نے اچھے کام کیے، تو خود اپنے ہی فائدہ کے لیے اور اگر تم نے برائیاں کیں، تو اپنے ہی لیے۔]

اس بارے میں بہت سے دلائل اور بھی ہیں۔“^①

۲: سچ کا دنیا و آخرت کی خیر کے اسباب میں سے ہونا:

علامہ ابن ابی جرہہ ہی لکھتے ہیں: اس میں یہ دلیل [بھی] ہے، کہ آخرت ہی سے دنیا حاصل ہوتی ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے، کہ ان دونوں کے لیے برکت تو سچائی ہی سے حاصل ہوتی ہے اور وہ امور آخرت سے ہے، اس کے اپنانے والے کو ثواب ملتا ہے اور وہ ایمان کی سب سے کامل صفات میں سے ہے۔ محققین [علماء] نے کہا ہے: ”جس نے سچ بولا، اور تصدیق کی، تو وہ ضرور [اپنے مقصد کے] قریب ہوا۔“

آنحضرت ﷺ نے ان الفاظ میں اسے بیان فرمایا:

”لَا يُنَالُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى“^②

جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ان کی طاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا

سکتا۔^③

① بہجة النفوس ۲۱۹/۲۔ علامہ مینی نے تحریر کیا ہے، کہ ظاہری طور پر تو حدیث کا تقاضا یہی ہے، کہ حدیث پر عمل کرنے والا برکت حاصل کرے، لیکن اس بات کا احتمال ہے، کہ ایک کی نحوست کا اثر دوسرے پر بھی ہو جائے۔ (ملاحظہ ہو: عمدة القاري ۱۹۵/۱۱)۔ حافظ ابن حجر نے دونوں احتمالات ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی تحریر کیا ہے، کہ علامہ ابن ابی جرہہ نے احتمال اول کو ترجیح دی ہے، لیکن خود کسی کو ترجیح دینے کا ذکر نہیں کیا۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباري ۳۲۹/۴)۔

② اس حدیث کے لیے ملاحظہ ہو: مجمع الزوائد، کتاب البيوع، باب الاقتصاد في طلب الرزق ۷۱/۴؛ والترغيب والترهيب، کتاب البيوع وغيرها، الترغيب في الاقتصاد في طلب الرزق والإجمال فيه، رقم الحديث ۷، ۵۳۵/۲۔ شیخ البانی نے اس کو [حسن صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحيح الترغيب والترهيب، ۳۱۲/۲)۔

③ ملاحظہ ہو: بہجة النفوس ۲۲۰/۲؛ نیز ملاحظہ ہو: فتح الباري ۳۲۹/۴)۔

۳: جھوٹ کا دنیا و آخرت میں بدبختی کا سبب ہونا:

بلاشبہ جھوٹ دنیا و آخرت میں شقاوت اور محرومی کا سبب ہے۔ علامہ ابن ابی جرہ لکھتے ہیں: ”اس میں یہ دلیل [بھی] ہے، کہ گناہوں کی نحوست دنیا و آخرت کی خیر کو بہا کر لے جاتی ہے۔ یہ حقیقت آنحضرت ﷺ کے ارشاد: [اور اگر دونوں نے] عیب کو [چھپایا اور جھوٹ بولا، تو ان کے لین دین کی برکت اٹھالی جائے گی۔] سے واضح ہوتی ہے۔ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور چھپانا جو کہ خیانت ہے، وہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیونکہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.“

”جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، پس وہ ہم میں سے نہیں۔“

اور کذاب کے متعلق آنحضرت ﷺ کا گزشتہ حدیث میں ارشاد ہے:

”الَّذِي يُشَدُّ شِدْقَهُ مِنْ حِينِ مَوْتِهِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ.“

”وہ ایسا شخص ہے، کہ اس کی موت کے وقت سے لے کر قیامت کے پنا

ہونے تک، اس کے جڑے کو چیرا جاتا رہے گا۔“

پھر اس وقت اس کے انجام کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ اس کی دنیا تو برباد ہوئی، کیونکہ برکت کے اٹھ جانے سے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں دنیوی چیز تھی، وہ ہلاک ہونے والی ہے اور اس کی آخرت [بھی] اُجڑ گئی، کیونکہ اس میں وہ عذاب پانے والا ہے۔“

① حدیث شریف کے لیے ملاحظہ ہو: صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی ﷺ: ”مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا“، رقم الحدیث ۱۶۴- (۱۰۱)، ۹۹/۱۔

② علامہ ابن ابی جرہ نے اس کے ساتھ اپنی کتاب [بہجة النفوس] میں ذکر کردہ حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔

③ بہجة النفوس ۲۲۰/۲۔

④ اس حدیث کی تخریج کے لیے ملاحظہ ہو: کتاب هذا کا ص ۶۰

حافظ ابن حجر لکھتے ہیں: ”اس حدیث میں سچ گوئی کی فضیلت اور اس کی ترغیب ہے، جھوٹ کی مذمت اور اس سے باز رہنے کی تلقین ہے اور [اس بات کا بیان بھی ہے کہ] جھوٹ برکت کو ختم کر دیتا ہے اور عمل آخرت [یعنی نیکی] سے دنیا و آخرت کی خیر حاصل ہوتی ہے۔“ ❶

۴: جھوٹ سے دوری ابن عوف رضی اللہ عنہ کی امیری کا ایک سبب:
حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کے مال کی فراوانی کے اسباب کے متعلق دریافت کیا گیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا:

” مَا كَذَبْتُ قَطُّ ، وَلَا دَلَّسْتُ ، وَلَا بَعْتُ بَدِينٍ ، وَلَا رَدَّدْتُ
فَضْلًا أَيُّ شَيْءٍ كَانَ .“ ❷

”میں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، نہ ہی ہیرا پھیری کی ہے، نہ ہی ادھار [سودا] فروخت کیا ہے، اور میں نے نفع کچھ بھی ہو، رد نہیں کیا [یعنی جس نفع پر بھی سودا فروخت ہو رہا ہو، میں اس کو فروخت کر دیتا ہوں۔]

ب: جھوٹ کا تاجروں کو فجار بنانے کا ایک سبب:
تجارت میں جھوٹ بولنے کی خرابی اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے، کہ یہ تاجروں کو فاجروں کے زمرہ میں شامل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ ❸
اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو لین دین میں جھوٹ سے محفوظ رکھیں۔
إِنَّهُ سَمِيعٌ مُّجِيبٌ .

❶ فتح الباری ۳۲۹/۴

❷ ملاحظہ ہو: بهجة النفوس ۳۲۰/۲

❸ اس بارے میں تفصیل کے لیے اس کتاب کے صفحات ۵۱-۵۳ میں ملاحظہ فرمائیے۔

مزاحاً جھوٹ بولنا

بعض لوگ مزاح کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ توفیق الہی سے ذیل میں قدرے تفصیل سے اس بارے میں گفتگو پیش کی جا رہی ہے:

ا: جھوٹ کا سنجیدگی و مذاق میں نادرست ہونا:

حضرات ائمہ و کعب ، ہناد اور بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان فرمایا:

” لَا يَصْلُحُ الْكُذْبُ فِي جِدِّ وَلَا هَزَلٍ .“

”جھوٹ نہ سنجیدگی میں درست ہے اور نہ مذاق میں۔“

امام بخاری نے اس پر درج ذیل باب قائم کیا ہے:

[بَابُ لَا يَصْلُحُ الْكُذْبُ]

[جھوٹ کے نادرست ہونے کے متعلق باب]

ب: مزاحاً جھوٹ ترک کیے بغیر ایمان کا نامکمل رہنا:

امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا،

کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يُؤْمِنُ الْعَبْدُ الْإِيمَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَتْرَكَ الْكُذْبَ مِنَ الْمَزَاحَةِ ،“

① کتاب الزهد للإمام وكيع ، باب الكذب والصدق ، رقم الرواية ٣٩٥-١ ، ٦٩٥/٣ ،
والزهد للإمام هناد ، باب الصدق والكذب ، رقم الرواية ١٣٩٣ ، ٤٢٤٣/٣ ، والأدب
المفرد ، جزء من رقم الرواية ٣٨٨ ، ص ١٤٠ . الفاظ حدیث الأدب المفرد کے ہیں۔ شیخ البانی
نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح الأدب المفرد ص ١١٢ ؛ نیز ملاحظہ ہو: هامش
کتاب الزهد ٦٩٥/٣-٦٩٦) .
② الأدب المفرد ص ١٤٠ .

وَيَتْرُكُ الْمَرَاءَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا. ۱

”بندہ تب تک مکمل ایمان والا نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ مزاحاً جھوٹ نہ چھوڑ

دے، اور جب تک کہ وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے، اگرچہ وہ سچا [ہی] ہو۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے، کہ دو

باتوں کے بغیر [کتاب و سنت میں بیان کردہ دیگر باتوں کے ساتھ ساتھ] ایمان مکمل

نہیں ہوتا اور ان دونوں میں سے ایک بات مزاحاً جھوٹ کا ترک کرنا ہے۔

ج: مزاحاً ترک جھوٹ پر وسط جنت میں گھر کی ضمانت:

امام ابو داؤد نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے

بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَيْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ ، وَإِنْ

كَانَ مُحِقًّا ، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكُذْبَ ،

وَإِنْ كَانَ مَازِحًا ، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ. ۲

”میں جنت کے گرد و پیش میں اس شخص کے لیے گھر کا ضامن ہوں، جو

جھگڑا چھوڑ دے، اگرچہ وہ حق پر ہو، اور اس شخص کے لیے جنت کے

۱ المسند، رقم الحدیث ۲۵۹/۱۶، ۸۶۱۵ (ط: القاہرہ). حافظ المنذری نے اس کے متعلق لکھا

ہے: ”اس کو احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔“ (الترغیب والترہیب، کتاب الأدب وغیرہ،

الترغیب فی الصدق والترہیب من الکذب، رقم الحدیث ۱۹، ۵۹۴/۳). شیخ البانی نے

اس کو [صحیح لغیرہ] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح الترغیب والترہیب ۱۲۶/۳).

۲ سنن ابی داؤد، کتاب الأدب، باب فی حسن الخلق، رقم الحدیث ۴۷۹۰، ۱۰۸/۱۳.

حافظ منذری نے اس کے متعلق لکھا ہے: اس کو ابو داؤد، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور ترمذی

نے اس کو [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: الترغیب والترہیب، کتاب الادب وغیرہ، الترغیب

فی الخلق الحسن و فضله، رقم الحدیث ۱۵، ۴۰۶/۳). شیخ البانی نے اس کو [حسن] کہا

ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن ابی داؤد: ۹۱۱/۳ و سلسلۃ الأحادیث الصحیحہ، رقم

درمیان میں گھر کا [ضامن] ہوں، جو مزاحاً جھوٹ ترک کر دے، اور بالائی جنت میں اس شخص کے لیے گھر کا [ضامن] ہوں، جو اپنے اخلاق عمدہ کرے۔“

آنحضرت ﷺ نے اس حدیث شریف میں مزاحاً جھوٹ ترک کرنے والے شخص کو وسط جنت میں گھر عطا کیے جانے کی ضمانت دی ہے۔ اللہ اکبر! یہ ضمانت کس قدر جلیل القدر اور پختہ ہے۔ اے اللہ کریم! ہم ناکاروں کو اس سے محروم نہ فرمانا۔ آمین یا حی یا قیوم۔

تنبیہ:

سچی مزاحیہ بات کی اجازت:

سابقہ گفتگو سے یہ نہ سمجھا جائے، کہ اسلام میں ہر قسم کی مزاحیہ بات کہنے کی ممانعت ہے۔ صرف ایسی مزاحیہ بات کہنے کی ممانعت ہے، جو جھوٹ ہو۔ جھوٹ سے پاک مزاحیہ بات فرمانا خود نبی کریم ﷺ سے ثابت ہے۔ ذیل میں اس بارے میں تین شواہد ملاحظہ فرمائیے:

۱: امام احمد اور امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ انہوں [حضرات صحابہ] نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! آپ ہم سے مزاح فرماتے ہیں۔“

آپ ﷺ نے جواب میں فرمایا:
”نَعَمْ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.“

① المسند، رقم الحدیث ۸۷۲۳، ۳۳۹/۱۴، (ط: مؤسسة الرسالة)؛ وصحیح سنن الترمذی، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، رقم الحدیث ۱۶۲۱-۲۰۷۵، ۱۹۲/۲؛ ومختصر الشمائل المحمدية، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله ﷺ

”ہاں، لیکن میں تو سچ کے سوا کوئی اور بات نہیں کہتا۔“

۲: امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ نبی کریم ﷺ نے ان سے فرمایا:

”يَا ذَا الْأُذُنَيْنِ!“

”اے دوکانوں والے۔“

ابو اسامہ • بیان کرتے ہیں: ”یعنی آنحضرت ﷺ [ان الفاظ کے ساتھ] ان سے مزاح فرماتے تھے۔“ •

۳: امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے سواری طلب کی، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

”إِنِّي حَامِلُكَ عَلَىٰ وَوَلَدِ النَّاقَةِ.“

”بلاشبہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروا رہا ہوں۔“

◀◀ رقم الحدیث ۲۰۲، ص ۱۲۶. الفاظ حدیث مختصر الشائل المحمدیہ کے ہیں۔ امام بغوی نے اس کو [حسن] اور شیخ البانی نے [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: شرح السنة ۱۸۰/۱۳؛ وصحیح سنن الترمذی ۱۹۲/۲؛ ومختصر الشائل المحمدیہ ص ۱۲۶).

① (ابو اسامہ): روایان حدیث میں سے ایک۔

② سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب ما جاء في المزاح، رقم الحدیث ۴۹۹۲، ۲۳۵/۱۳؛ وصحیح سنن الترمذی، أبواب البر والصلة، باب ما جاء في المزاح، رقم الحدیث ۱۶۲۲ - ۲۰۷۶، ۱۹۲/۲؛ ومختصر الشائل المحمدیہ، باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم الحدیث ۲۰۰، ص ۱۲۴-۱۲۵. الفاظ حدیث مختصر الشائل المحمدیہ کے ہیں۔ امام بغوی اور شیخ البانی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: شرح السنة ۱۸۲/۱۳؛ وصحیح سنن أبي داود ۱۹۴/۳؛ وصحیح سنن الترمذی ۱۹۲/۲؛ ومختصر الشائل المحمدیہ ص ۱۲۵)

اس شخص نے عرض کیا: ”یا رسول اللہ! میں اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا؟“

آپ ﷺ نے فرمایا:

”وَهَلْ تَلْدُ الْإِبِلَ إِلَّا التُّوقُ؟“ •

”اور کیا اونٹوں کو اونٹنیوں کے سوا اور کوئی جنم دیتا ہے؟“

شیخ عظیم آبادی تحریر کرتے ہیں: ”اس حدیث اور اس باب • کی دیگر احادیث

میں مزاح کا جواز [ثابت ہوتا] ہے، آنحضرت ﷺ صحابہ سے مزاح فرمایا کرتے تھے اور [دورانِ مزاح] حق کے سوا کوئی اور بات نہ بولتے تھے۔“

خلاصہ کلام یہ ہے، کہ سچی بات کے ساتھ مزاح جائز ہے، البتہ وہ مزاح حرام ہے، جس میں جھوٹ موجود ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو جھوٹے مزاح سے محفوظ رکھیں۔ آمین

يا ذا الجلال والإكرام.

11

لوگوں کو ہنسوانے کے لیے جھوٹ بولنا

جھوٹ کی صورتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ کوئی شخص دوسروں کو ہنسوانے کی غرض سے اپنی بات میں جھوٹ کی آمیزش کرے۔ ہمارے نبی کریم ﷺ نے اس کا

• سنن أبی داود ، کتاب الأدب، باب ما جاء فی المزاح ، رقم الحدیث ۴۹۹۸، ۲۳۳/۱۳، وصحیح سنن الترمذی، أبواب البر والصلة ، باب ما جاء فی المزاح، رقم الحدیث ۱۶۲۳- ۲۰۷۷، ۱۹۲/۲، ومختصر الشمائل المحمدیه، باب ما جاء فی صفة مزاح رسول الله صلی الله علیه وسلم ، رقم الحدیث ۲۰۳، ص ۱۲۶-۱۲۷. امام بغوی اور شیخ البانی نے اس کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: شرح السنة ۱۸۳/۱۳۶، وصحیح سنن أبی داود ۹۴۲/۳، وصحیح سنن الترمذی ۱۹۲/۲، ومختصر الشمائل المحمدیه ص ۱۲۶). ان کا اشارہ سنن ابی داود میں موجود باب بعنوان [باب ما جاء فی المزاح]، [مزاح کے متعلق وارد نصوص کا باب] کی طرف ہے۔

• عون المعبود ۲۳۴/۱۳

بڑا انجام بیان فرما کر امت کو اس سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔

حضرت ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور حاکم نے بہز بن حکیم سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ حدیث میرے دادا رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بیان کی، کہ انہوں نے بیان کیا: ”میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

”وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، فَيَكْذِبُ،
وَيْلٌ لَهُ، وَوَيْلٌ لَهُ.“ •

”اس شخص کے لئے [ویل] ہے، جو لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے بات کرتا ہے، تو اس میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لیے ویل ہے، اس کے لیے ویل ہے۔“

اس حدیث شریف میں آنحضرت ﷺ نے اس بات کی خبر دی ہے، کہ جو شخص لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے اپنی گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے، اس کے لئے [ویل] ہے۔ اور [ویل] سے مراد بہت بڑی ہلاکت یا جہنم کی ایک گہری وادی ہے۔ • اللہ کریم

• المسند، رقم الحدیث ۲۰۰۷۳، ۲۶۲/۳۳؛ و سنن أبی داؤد، کتاب الأدب، باب التشدید فی الکذب، رقم الحدیث ۴۹۸۰، ۱۱۳/۲۲۸؛ و جامع الترمذی، أبواب الزهد، باب ماجاء من تکلم بالکلمة لیضحک الناس، رقم الحدیث ۲۴۱۷، ۴۹۷/۶-۴۹۸؛ و المستدرک علی الصحیحین، کتاب الإیمان، ۴۶/۱۔ الفاظ حدیث جامع الترمذی کے ہیں۔ امام ترمذی اور شیخ البانی نے اس کو [حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: جامع الترمذی ۴۹۸/۶؛ و صحیح سنن أبی داؤد ۹۴۲/۳؛ و صحیح سنن الترمذی ۲۶۸/۲؛ و غایة المرام فی تخریج أحادیث الحلال والحرام ص ۲۱۶)۔ شیخ ارناؤوط اور ان کے رفقاء نے اس کی [سند کو حسن] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۲۶۲/۳۳)۔

• ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۵۸۰/۱۸؛ نیز ملاحظہ ہو: النہایة فی غریب الحدیث والأثر، مادة ”الویل“، ۲۳۶/۵؛ و المفردات فی غریب القرآن، مادة ”ویل“، ص ۵۳۵؛ و فیض القدر للمناوی ۳۶۷/۶۔

اپنے فضل و کرم سے اس سے محفوظ فرمائیں۔ آمین یا ذا الجلال والاكرام۔
 علاوہ ازیں آنحضرت ﷺ نے ایسے شخص کے [ویل] کا مستحق ہونے کا ذکر
 ایک مرتبہ نہیں، بلکہ تین مرتبہ فرمایا۔ علامہ مناوی نے اس تکرار کی حکمت بیان کرتے
 ہوئے تحریر کیا ہے: ”آنحضرت ﷺ نے ایسے شخص کی شدید بربادی کی خبر دینے کی
 خاطر اس [یعنی لفظ ویل] کی تکرار فرمائی، کیونکہ جھوٹ تنہا ہی ہر قابل مذمت برائی کی
 جڑ، اور ہر خرابی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو
 ہسانا شامل ہو گیا، جو دلوں کو مردہ کرتا ہے، نسیان کو کھینچتا ہے اور سرکشی کو لاتا ہے، تو پھر
 تو یہ انتہائی قبیح صورت اختیار کر جاتا ہے۔“

کس قدر نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کو ہسانے کی غرض سے اپنی عاقبت برباد
 کرتا ہے!

اے اللہ کریم! ہمیں ایسے احمق لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ آمین یا حي یا قیوم۔

ازارہ تکلف جھوٹ بولنا

بعض لوگ ازراہ تکلف جھوٹ بولتے ہیں۔ انہیں کوئی چیز پیش کی جائے، تو وہ
 اس کی شدید رغبت اور خواہش کے باوجود کہتے ہیں: ”مجھے اس کی خواہش نہیں۔“
 علامہ غزالی نے تحریر کیا ہے: جھوٹ کی ایک عام رائج صورت، جس کے بارے میں
 تساہل کیا جاتا ہے، یہ ہے، کہ [کسی سے] کہا جائے: ”کھانا تناول فرمائیے“ اور وہ
 جواب میں کہے: ”مجھے طلب نہیں“ [حالانکہ اس کو اس کی طلب ہوتی ہے]
 ایسا کرنے سے روکا گیا ہے اور یہ حرام ہے، اگرچہ وہ دلی ارادے سے نہ بھی کہے۔

امام ابن ماجہ نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”نبی کریم ﷺ کے پاس کھانا لایا گیا، تو آپ ﷺ نے [اس کو] ہم پر پیش فرمایا، تو ہم نے عرض کیا: ”ہمیں اس کی خواہش نہیں۔“ آپ ﷺ نے فرمایا:

● ”لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذْبًا.“
 ”بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔“

علامہ طیبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: ”بھوکے ہونے کے باوجود تمہارا [ہمیں اس کی خواہش نہیں] کہہ کر کھانے کی پیش کش کے قبول کرنے سے انکار میں بھوک اور جھوٹ کو جمع کرنا ہے۔“ ●

ملا علی قاری نے لکھا ہے: ”زیادہ ظاہر بات یہ ہے کہ اس [حدیث] میں انہیں جھوٹ سے روکا گیا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے اس صورت میں دین و دنیا کا خسارہ جمع ہو جاتا ہے۔“ ●

اللہ کریم ہمیں ازراہ تکلف جھوٹ بولنے اور ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ فرمائیں۔
 آمین یا رب العالمین.

13

مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا

بعض لوگ مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنے سے احتراز نہیں کرتے، جیسے کہ بعض لوگ بچوں کو کسی کام میں ترغیب دینے یا کسی کام سے روکنے کی خاطر جھوٹ

① سنن ابن ماجہ، أبواب الأطعمة، باب عرض الطعام، رقم الحدیث ۳۳۴۱، ۲/۲۳۹. حافظ بوسیری نے اس کی [اسناد کو حسن] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: مصباح الزجاجة ۱۷۹/۲) اور شیخ البانی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن ابن ماجہ ۱۲/۲۳۰).

② شرح الطیبی ۲۸۷۲/۹. ③ مرقاة المفاتیح ۸۵/۸.

بولتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس قسم کے جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس بارے میں قدرے تفصیل ملاحظہ فرمائیے:

ا: نبی ﷺ کا اس سے منع فرمانا:

حضرت ائمہ احمد، ابو داؤد اور بیہقی نے حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ بلاشبہ انہوں نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ ہمارے گھر تشریف لائے، اور میں اس وقت بچہ تھا۔“

انہوں نے بیان کیا: ”میں کھیلنے کی خاطر باہر نکلنے لگا، تو میری والدہ نے کہا: ”اے عبداللہ! آؤ میں تمہیں دوں۔“

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تم نے تو اس کو دینے کا ارادہ نہیں کیا؟“

انہوں نے عرض کیا: ”میں اس کو ایک کھجور دے رہی ہوں۔“

انہوں نے بیان کیا: ”رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَمَا أَنْكَ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ كِذْبَةٌ.“

”خبردار اگر تم ایسے نہ کرتی، تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا۔“

علامہ سندھی نے شرح حدیث میں لکھا ہے: ”آنحضرت ﷺ کا ارشاد گرامی:

[لَوْ لَمْ تَفْعَلِي] سے مراد یہ ہے، کہ اگر تم اس کو کچھ نہ دیتی۔ یہ حدیث اس بات پر

دلالت کناں ہے، کہ جو شخص وعدہ پورا نہ کرے، وہ جھوٹا ہے اور چھوٹے سے وعدہ

① المسند، رقم الحدیث ۱۵۷۰۲، ۱۲۴، ۴۷۰؛ وسنن أبي داود، كتاب الأدب، باب التشديد

في الكذب، رقم الحدیث ۴۹۸۱، ۱۳ / ۲۲۸؛ والسنة الكبرى للبيهقي، كتاب

الشهادات، باب من وعد غيره شيئاً.....، رقمي الحديثين ۲۰۸۳۹ و ۲۰۸۴۰، ۳۳۵/۱۰.

الفاظ حدیث المسند کے ہیں۔ شیخ ارناؤوٹ اور ان کے رفقاء نے حدیث المسند کے بارے میں [الحسن

لغيره] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۱۲۴ / ۴۷۰)؛ شیخ البانی نے حدیث ابی داؤد کو [حسن]

قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن أبي داود ۱۳ / ۹۴۳؛ نیز ملاحظہ ہو: سلسلة الأحاديث

الصحيحة، رقم الحدیث ۷۴۸، ۲ / ۳۸۴-۳۸۵).

ایسے ہی ہے، جیسے کہ بڑے سے۔^①

اس حدیث شریف سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے، کہ بچوں کے رونے پر لوگ جو کچھ ازراہ مزاح یا انھیں کچھ دینے یا کسی چیز سے ڈرانے کی غرض سے جھوٹ بولتے ہیں، وہ سب حرام ہے اور جھوٹ میں داخل ہے۔^②

ب: ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اس سے روکنا:

امام احمد نے ابوالاحوص سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے:

”وَلَا يَعِدُّ الرَّجُلُ صَبِيًّا، ثُمَّ لَا يُنْجِزُ لَهُ.“^③

”ایسا نہ ہو، کہ آدمی بچے سے وعدہ کر لے، پھر اس کو پورا نہ کرے۔“

خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں، کہ مخاطب کو چھوٹا، معمولی یا حقیر سمجھ کر اس سے جھوٹ بولے۔ اللہ کریم ہمیں ایسی حرکت سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا حی یا قیوم۔

ہر سنی ہوئی بات بیان کرنا

جھوٹ تک لے جانے والی باتوں میں سے ایک یہ ہے، کہ آدمی جو کچھ سنے، اس کو تحقیق و ثبوت کے بغیر دوسروں کے روبرو بیان کرنا شروع کر دے۔ ایسے طرز عمل سے منع کیا گیا ہے۔ ذیل میں اس کے متعلق کچھ تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے:

① منقول از: هامش المسند ۲۴ / ۴۷۱. (ط: مؤسسة الرسالة).

② ملاحظہ ہو: عون المعبود ۱۳ / ۲۲۹.

③ المسند، جزء من رقم الأثر ۳۸۹۶، ۳۴۳/۵ (ط: القاهرة)؛ شیخ احمد شاکر نے اس کی اسناد کو صحیح [قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: هامش المسند ۵ / ۳۴۳)].

ا: نبی کریم ﷺ کا اس سے منع فرمانا:

امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

” كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.“^①

” آدمی کے لیے یہ جھوٹ کافی ہے، کہ ہر سنی ہوئی بات بیان کر دے۔“

علامہ قرطبی نے شرح حدیث میں تحریر کیا ہے: معنی حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے ہر سنی ہوئی بات بیان کر دی، تو اس کے لیے جھوٹ کا کافی حصہ حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اچھی بُری، صحیح اور غلط باتیں سنتا ہے۔ جب وہ سب باتیں بیان کرے گا، تو غلط اور جھوٹی باتیں بھی بیان کرے گا، پھر وہ باتیں اس سے نقل کی جائیں گی، تو وہ خود اپنے نفس ہی میں جھوٹا ہوگا، یا ان باتوں کی وجہ سے اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔^②

علامہ طیبی رقم طراز ہیں: مراد یہ ہے، کہ اگر آدمی کی گفتگو میں اس کے سوا کوئی اور جھوٹ نہ ہو، کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو، سچ اور جھوٹ کی چھان پھٹک کے بغیر، بیان کر دیتا ہے، تو یہی جھوٹ اس کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ آدمی جب ہر سنی ہوئی بات بیان کرے، تو وہ جھوٹ سے نہیں بچ سکتا، کیونکہ سنی ہوئی ساری باتیں تو سچ نہیں ہوتی، ان میں سے کچھ تو جھوٹی بھی ہوتی ہیں۔

ایسی کسی بات کی سچائی کو جانے بغیر بیان کرنے پر ڈانٹ ہے۔ آدمی پر لازم ہے کہ وہ تمام سنی ہوئی حکایات اور خبروں کے بارے میں تحقیق کرے۔^③ اور خاص طور

① صحیح مسلم، المقدمة، رقم الحدیث ۵۔ (۵)، ۱۰۱۱۔

② ملاحظہ ہو: المفہم ۱۱۷/۱۔

③ شاید سنی ہوئی حکایات اور خبروں کے بارے میں تحقیق کرنا تب لازم ہوگا، جب انہیں بیان کرنے کا ارادہ ہو، وگرنہ نہیں۔ واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب۔

پر رسول کریم ﷺ کی احادیث کے بارے میں۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے، کہ وہ سچ ہیں، تو بیان کرے، وگرنہ بیان نہ کرے۔ ●

ب: سلف صالحین کا اس سے روکنا:

سلف صالحین نے بھی ہر سنی ہوئی بات کے بیان کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں امام مسلم کے روایت کردہ چار اقوال درج ذیل ہیں:

۱: حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے، کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے۔“

۲: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے، کہ وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے۔“

۳: امام مالک نے بیان کیا: ”جان لو! ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنے والا شخص بچتا نہیں، اور نہ ہی ہر سنی ہوئی بات بیان کرنے والا شخص کبھی بھی امام ہو سکتا ہے۔“

۴: امام عبدالرحمن بن مہدی نے بیان کیا: ”آدمی اس وقت امام نہیں ہوتا، کہ اس کی اقتدا کی جائے، یہاں تک کہ وہ بعض سنی ہوئی باتوں کو [اپنے ہی پاس] روک نہ لے [یعنی انہیں بیان نہ کرے]۔“ ●

امام نووی نے مذکورہ بالا آثار اور حدیث پر درج ذیل عنوان تحریر کیا ہے:

[بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْحَدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ.] ●

[ہر سنی ہوئی بات کے بیان کرنے کی ممانعت کے متعلق باب]

● ملاحظہ ہو: شرح الطیبی ۱۶/۶۲۳؛ نیز ملاحظہ ہو: مرقاة المفاتیح ۱/۳۹۲۔

● عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مراد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ (ملاحظہ ہو: شرح النووی ۱/۷۵۱)۔

● صحیح مسلم، المقدمة، ۱۱/۱۔

● المرجع السابق ۱۱/۱۔

امام نووی اس باب میں ذکر کردہ روایات کے متعلق لکھتے ہیں:

”اس باب میں موجود حدیث اور آثار میں اس بات پر ڈانٹ ہے، کہ


انسان ہر سنی ہوئی بات بیان کرے، کیونکہ وہ عام طور پر سچ اور جھوٹ

[دونوں] سنتا ہے۔ سواگر وہ ہر سنی ہوئی بات بیان کرے گا، تو غیر واقعی

باتوں کے بارے میں خبر دینے کی بنا پر جھوٹ بولے گا۔“^①

اللہ کریم ہمیں ہر سنی ہوئی بات کے بیان کرنے سے محفوظ رکھیں۔ آمین یا

ذا الجلال والإکرام.



www.KitaboSunnat.com

بحث چہارم

جھوٹ بولنے کی اجازت کے مواقع

۱: اس کے متعلق تین احادیث

ہمارے نبی کریم ﷺ نے کچھ حالتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے۔
اس بارے میں ذیل میں تین احادیث شریفہ درج کی جا رہی ہیں:

۱: امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت نقل کی

ہے، کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:

” لَيْسَ الْكُذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ
يَقُولُ خَيْرًا.“ ❶

”وہ کذاب نہیں، جو کہ لوگوں کے درمیان صلح کرواتے ہوئے اچھی بات

نقل کرتا ہے، یا خیر کی بات کرتا ہے۔“

اس حدیث شریفہ میں نبی کریم ﷺ نے اس شخص کے جھوٹے ہونے کی نفی

فرمائی ہے، جو کہ لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر کچھ بات کرتا ہے۔ امام بخاری

نے اس حدیث پر ان الفاظ میں عنوان قائم کیا ہے:

[بَابُ لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ]. ❷

”لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے والے کے جھوٹانہ ہونے کے متعلق باب۔“

❶ متفق علیہ: صحیح البخاری، کتاب الصلح، رقم الحدیث ۲۶۹۲، ۲۹۹۱/۵؛ وصحیح

مسلم، کتاب البر والصلۃ والآداب، باب تحریم الکذب و بیان المباح منہ، رقم الحدیث

۱۰۱- (۲۶۰۵)، ۲۰۱۱/۴.

❷ صحیح البخاری، کتاب الصلح، ۲۹۹۱/۵.

۲: بعض احادیث میں آنحضرت ﷺ نے اس کے علاوہ دو اور صورتوں میں بھی جھوٹ کے بارے میں رخصت دی ہے۔ ایسی احادیث میں سے ایک: امام ترمذی نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا، کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

” لَا يَحِلُّ الْكُذْبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا، وَالْكَذْبُ فِي الْحَرْبِ، وَالْكَذْبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ.“ ❶

” تین [حالتوں] کے سوا جھوٹ جائز نہیں: آدمی اپنی بیوی کو خوش کرنے کی خاطر بات کرے، جنگ میں جھوٹ اور لوگوں کے درمیان اصلاح کی خاطر جھوٹ۔“

۳: اسی بارے میں ایک حدیث امام احمد نے حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے نقل کیا ہے، کہ انہوں نے بیان کیا:

” رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكُذْبِ فِي ثَلَاثٍ: فِي الْحَرْبِ، وَفِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، وَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ.“ ❷

” نبی کریم ﷺ نے تین [صورتوں] میں جھوٹ کی رخصت دی ہے:

❶ جامع الترمذی، أبواب البر والصلوة، باب ماجاء في إصلاح ذات البين، رقم الحديث ۲۰۰۳، ۵۸۱/۶، امام ترمذی نے اس کو [حسن] کہا ہے۔ (ملاحظہ ہو: المرجع السابق ۵۸۱/۶): اور شیخ البانی نے [لِيُرْضِيَهَا] لفظ کے سوا باقی حدیث کو [صحیح] قرار دیا ہے۔ (ملاحظہ ہو: صحیح سنن الترمذی ۱۸۳/۲)۔

❷ المسند، رقم الرواية ۲۷۲۷۸، ۲۴۹/۴۵ (ط. مؤسسة الرسالة). شیخ البانی نے اس کے بارے میں لکھا ہے: ”یہ اسناد شیخین کی شرط پر ہے، لیکن [انہوں نے اس سند کے ساتھ روایت نہیں کیا۔“ (سلسلة الأحادیث الصحيحة، رقم الحديث ۵۴۵، ۷۴/۲ - ۷۷)۔

لڑائی میں، لوگوں کے درمیان اصلاح میں، اور آدمی کے اپنی بیوی کے ساتھ بات چیت میں۔“

ب: جائز جھوٹ کے بارے میں تنبیہات

ا: ان حالات میں جائز [جھوٹ] سے مراد:

امام خطابی تحریر کرتے ہیں: ”دو [اشخاص] کے درمیان اصلاح کرتے وقت جھوٹ سے مراد یہ ہے، کہ ایک شخص کی طرف سے دوسرے تک خیر کی بات پہنچائے، عمدہ خبر سنائے، اگرچہ اس نے وہ خبر سنی نہ ہو اور اس سے مقصود اصلاح ہو۔

جنگ میں جھوٹ یہ ہے، کہ اپنی قوت کا اظہار کرے، ایسی گفتگو کرے، کہ اس کے ساتھیوں کے لیے باعث تقویت ہو اور دشمن کو مغالطہ میں ڈالے۔ نبی کریم ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ بلاشبہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جنگ دھوکا ہے۔“^①

اور آدمی کا اپنی بیوی سے جھوٹ یہ ہے، کہ اس سے اچھے اچھے وعدے کرے اور اپنے دل میں اس کے لیے موجود محبت سے زیادہ کا اظہار کرے، تاکہ دونوں میں رفاقت دائمی ہو اور اس کے ساتھ بیوی کے معاملہ کی اصلاح ہو جائے۔“^②

علامہ ابن الملک نے لکھا ہے: ”جنگ میں جھوٹ یہ ہے، کہ وہ مثال کے طور پر کہے: ”لشکر اسلام کثیر تعداد میں ہے۔“ ”انہیں بہت مدد پہنچ چکی ہے“ یا یہ کہے: ”پیچھے دیکھ، کہ فلاں شخص تجھے پیچھے سے مارنے کے لیے آچکا ہے۔“^③

انہوں نے میاں بیوی کے درمیان بولے جانے والے جھوٹ کے بارے میں تحریر کیا ہے: ”جیسے یہ کہے: ”مجھے آپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔“^④

① ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، کتاب الجہاد، باب الحرب خدعة، رقم الحدیث ۳۰۲۹،

② منقول از: شرح الطیبی ۱۰/۳۲۱۱،

۱۵۸/۶،

③ منقول از: المرجع السابق ۷۶۶/۸،

④ منقول از: مرقاة المفاتیح ۷۶۶/۸،

۲: ان حالات میں جھوٹ کا استعمال بوقت مجبوری:

اس بارے میں علامہ غزالی نے لکھا ہے: جب جنگ اور باہمی اصلاح میں بات جھوٹ کے بغیر نہ بنے، تب جھوٹ جائز ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو، [ان حالات میں بھی] جھوٹ سے بچنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ کا دروازہ اپنے لیے کھول لیتا ہے، تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے، کہ پھر حاجت اور ضرورت کے بغیر بھی وہ جھوٹ کی طرف آئے گا۔ ❶

علامہ قرطبی تحریر کرتے ہیں: ”ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ ہر قسم کا جھوٹ حرام ہے۔ ان تین صورتوں کے علاوہ جھوٹ کی کوئی شکل جائز نہیں۔ اور ان صورتوں میں [بھی] آنحضرت ﷺ نے مصالح کے حاصل ہونے اور مفاسد کے دور ہونے کی بنا پر جھوٹ کی اجازت دی ہے۔ اور بہترین بات یہ ہے، کہ وہ ان تین صورتوں میں بھی جہاں تک ممکن ہو، جھوٹ نہ بولے۔ اور جب ممکن نہ ہو، تو پھر رخصت پر عمل کرے۔“ ❷

۳: کیا جھوٹ سے مراد تعریض اور توریہ ہے؟

قاضی عیاض نے مذکورہ بالا تین حالتوں میں جھوٹ بولنے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بیان کیا ہے، کہ اس جھوٹ کی نوعیت کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے:

ایک گروہ کی رائے میں ایسے حالات میں جھوٹ کی مطلقاً اجازت ہے۔ انہوں نے مصلحت کی بنا پر خلاف واقعہ بات کہنے کی رخصت دی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے قول:

﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾ ❶

[بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہے۔]

اور ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾ ❷

[بلاشبہ میں بیمار ہوں۔]

اور ”قَالَ: ”أُخْتِي.“ ❸

[یقیناً وہ میری ہمشیرہ ہے۔]

اور یوسف علیہ السلام کے منادی کرنے والے کے قول:

﴿أَيُّهَا الْعَيْرُ إِنَّكُمْ لَسِرْقُونَ﴾ ❹

[اے قافلہ والو! بلاشبہ تم چور ہو۔]

سے استدلال کیا ہے۔ ان کے نزدیک قابل مذمت جھوٹ وہ ہے، جس میں ضرر ہو۔

بعض دوسرے علماء نے، جن میں امام طبری بھی شامل ہیں، کہا ہے: ”کسی بھی چیز کے متعلق جھوٹ بولنا قطعی طور پر جائز نہیں۔“

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pvlib.com

انہوں نے مزید کہا ہے: اس بارے میں جھوٹ کے جواز کے سلسلہ جو کچھ وارد ہوا ہے، اس سے مراد تو یہ اور تعریضات کا استعمال کرنا ہے، صریحاً جھوٹ بولنا مراد نہیں، مثال کے طور پر وہ اپنی بیوی سے وعدہ کرتا ہے، کہ وہ اس کے ساتھ احسان کرے گا، اس کو فلاں چیز پہنائے گا، تو وہ دل میں [ساتھ ہی] نیت کر لے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنا مقدر فرمایا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ وہ ذو معنی کلمات استعمال کرے

❶ سورة الأنبياء، جزء من رقم الآية ٦٣. ❷ سورة الصافات، جزء من رقم الآية ٨٩.

❸ ملاحظہ ہو: صحیح البخاری، کتاب البیوع، باب شراء المملوك من الحرابي وهبته وعتقه، رقم الحدیث ٢٢١٧، ١٤/٤١٠. نیز دیکھیے: المرجع السابق، کتاب الطلاق، باب إذا قال لامرأته، وهو مكثرة: ”هذه أختي“ فلا شيء عليه، ٣٨٧/٩.

❹ سورة يوسف - عليه السلام - / جزء من الآية ٧٠.

اور مخاطب اس سے وہ مفہوم سمجھے، جس کے ساتھ اس کا دل خوش ہو جائے۔ اور جب وہ اصلاح کی کوشش کرے، تو وہ فریقین میں سے ہر ایک کے لیے دوسرے فریق کی عمدہ بات نقل کرے اور تو یہ کرے۔ اسی طرح جنگ میں اپنے دشمن سے کہے: [تمہارا قائد اعلیٰ مرگیا ہے] اور نیت ان کے زمانہ ماضی کے امام کی کرے۔ یا وہ کہے: [کل ہمارے ہاں مدد پہنچ جائے گی]، اور نیت کھانے وغیرہ کی کرے۔ یہ صورتیں مباح تعریضات میں سے ہیں اور یہ سب جائز ہیں۔

ان علماء نے حضرت ابراہیم اور حضرت یوسف علیہما السلام کے قصوں اور اسی طرح کی دیگر باتوں کو بھی تعریضات پر ہی محمول کیا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔^①

علامہ مہلب نے اس بارے میں شدید موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے: ”کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں، کہ وہ جھوٹ کے جواز کا اعتقاد رکھے۔ نبی کریم ﷺ نے جھوٹ سے مطلقاً منع فرمایا ہے اور بتلایا ہے، کہ وہ ایمان کے منافی ہے۔ اس لیے اس میں سے کچھ بھی جائز سمجھنا درست نہیں۔ آنحضرت ﷺ نے صلح کے لیے جس بات کی رخصت دی ہے، وہ یہ ہے، کہ فریقین کے درمیان خیر کی جس بات کا اس کو علم ہو، بیان کر دے اور جو شر کی بات سنے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرے، مشکل کام میں آسانی کے حصول، اور دُور کے قریب کرنے کے لیے [کوشش کرنے کا] وعدہ کرے۔ یہ معنی نہیں، کہ وہ کسی چیز کے بارے میں خلاف واقعہ خبر دے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول ﷺ نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح آدمی کا بیوی سے وعدہ کرنا اور اس کو [کسی بات کی] امید دلانا جھوٹ میں سے نہیں ہے، کیونکہ جھوٹ کی حقیقت تو یہ ہے، کہ خلاف واقعہ بات کی خبر دی جائے اور وعدہ تو پورا کیے جانے تک حقیقت نہیں بنتا۔ اور مستقبل میں اس کے پورے ہونے کی امید ہوتی ہے، اس لیے اس کو

جھوٹ بولنے کی اجازت کے مواقع

جھوٹ قرار دینا درست نہیں۔ اسی طرح جنگ میں ایسے الفاظ کے ساتھ تعریض اور ابہام کرنا جائز ہے، جن کے دو معانی ہوں، کہنے والا کا مقصود ایک معنی ہو اور سننے والا دوسرا معنی سمجھے اور یہ بھی خلاف واقعہ کسی بات کی خبر دینا نہیں ہے۔^①

جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سفر ہجرت کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا، تو وہ یہی طرز عمل اختیار فرماتے۔ امام بخاری نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، کہ انہوں نے بیان کیا: ”اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بال سفید ہو چکے تھے اور وہ [اہل مدینہ میں] معروف تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سفید بال نمودار نہ ہوئے اور نہ ہی وہ [ان کے ہاں] جانے پہچاننے جاتے تھے۔^② جب کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتا، تو استفسار کرتا: ”اے ابو بکر! آپ کے آگے بیٹھا ہوا شخص کون ہے؟“

تو وہ جواب میں فرماتے: ”یہ سیدھی راہ کی طرف میری راہ نمائی کرنے والے شخص ہیں۔“

انہوں نے بیان کیا: ”سمجھنے والا سمجھتا، کہ ان کا خیال راستے میں راہ نمائی کرنا ہے، اور ان کا مقصود راہ خیر کی طرف ہدایت کرنا تھا۔“^③

امام ابن سعد کی ایک روایت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس جواب کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت میں ہے، کہ بلاشبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے

① منقول از: شرح ابن بطلال لصحيح البخاري ۸۲/۸۔

② آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے، لیکن سفید بالوں کی آمد حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاں پہلے ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تجارت کے سلسلے میں اہل مدینہ کے پاس سے گزر ہوتا رہتا تھا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبے عرصے سے مکہ مکرمہ سے اس طرف سفر نہ کیا تھا۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری ۲۵۰/۱۷)۔

③ صحيح البخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، جزء من رقم الحديث ۳۹۱۱، ۲۴۹/۷۔

فرمایا: ”أَلِهَ النَّاسَ عَنِّي.“

”لوگوں کو مجھ سے مشغول کر دیجئے۔“ [یعنی لوگوں کی توجہ میری طرف

سے ہٹا دیجیے]

چنانچہ جب ان سے پوچھا جاتا: ”تم کون ہو؟“

تو وہ جواب دیتے: ”حصول مقصد کے لیے جستجو کرنے والا۔“

اور جب پوچھا جاتا: ”یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟“

تو فرماتے: ”ایک رہبر میری راہ نمائی کر رہے ہیں۔“

امام نووی کی رائے میں مذکورہ بالا تینوں صورتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، البتہ

افضل یہی ہے، کہ تعریض سے کام چلائے۔ حافظ ابن حجر نے بھی اسی رائے کو پسند کیا ہے۔

حافظ ابن حجر تحریر کرتے ہیں: ”نووی نے کہا ہے: ان تین حالات میں حقیقی جھوٹ

جائز ہے، البتہ تعریض سے کام لینا افضل ہے۔“ ابن العربی نے کہا ہے: ”مسلمانوں

پر شفقت کرتے ہوئے، ان کی حاجت کے پیش نظر، جنگ میں استثنائی طور پر جھوٹ کو

نص کے ساتھ جائز قرار دیا گیا ہے اور اس میں عقل کا کچھ دخل نہیں۔ اگر جھوٹ کی

حرمت عقل کے ساتھ ہوتی، تو [کبھی بھی] حلال نہ ہو سکتا تھا۔“

پھر حافظ رحمہ اللہ تعالیٰ تحریر کرتے ہیں: ”اس کی تقویت حجاج بن علاط رضی اللہ عنہ کے

قصہ سے ہوتی ہے، جس کو احمد، ابن حبان اور نسائی نے انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے

روایت کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، کہ انہوں [حجاج رضی اللہ عنہ] نے اہل مکہ سے

اپنا مال نکالنے کی خاطر حسب مصلحت بات کہنے کی، آنحضرت ﷺ سے اجازت طلب

کی، تو آپ ﷺ نے اجازت دے دی۔ اور انہوں نے اہل مکہ کو بتلایا، کہ خیبر والوں

نے مسلمانوں کو شکست دی ہے وغیرہ وغیرہ، جو کہ مشہور ہے۔“ ● ●
 شیخ البانی نے اس سلسلے میں لکھا ہے: ”صاحب بصیرت پر یہ بات مخفی نہیں، کہ گروہ
 اول کا قول ہی زیادہ راجح اور ان احادیث کے ظاہری معانی سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔
 دوسرے گروہ نے انہیں تعریض پر محمول کرنے کے لیے جو تائیل کی ہے، اس کی [حقیقت
 سے] دوری ڈھکی چھپی بات نہیں، خصوصاً جنگ کے دوران جھوٹ کے متعلق، کہ وہ اس قدر
 واضح ہے، کہ اس کے بارے میں دلیل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔“ ●
 ۴: زوجین کے درمیان جواز جھوٹ سے مراد دھوکا بازی نہیں:

میاں بیوی کے درمیان جھوٹ بولنے کی اجازت سے یہ مراد نہیں، کہ وہ ایک
 دوسرے کی حق تلفی اور باہمی دھوکا دہی کی کوششوں میں لگے رہیں۔ اس بارے میں امام
 نووی نے تحریر کیا ہے: ’شوہر کا بیوی کے لیے اور بیوی کا اس کے لیے جھوٹ بولنے سے
 مراد یہ ہے، کہ وہ ایک دوسرے کے لیے باہمی محبت اور اپنے ذمہ واجبات کی ادائیگی کے
 وعدے کا اظہار کریں۔ اپنے واجبات کی ادائیگی میں مکرو فریب کرنے یا ناجائز حق کے
 حصول کی خاطر ایسا کرنے کی حرمت پر اہل اسلام کا اجماع ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ●
 حافظ ابن حجر نے قلم بند کیا ہے: ”ان کا اس بات پر اتفاق ہے، کہ عورت اور مرد

● ملاحظہ ہو: المسند، رقم الحدیث ۱۲۴۰۹، ۱۱۹، ۴۰۰-۴۰۲؛ والإحسان فی تقریب صحیح
 ابن حبان، کتاب السیر، باب الخلافة والإمارة، ذکر ما يستحب للإمام بذل عرضه لرعيته
 إذا كان في ذلك صلاح أحوالهم في الدين والدنيا، رقم الحدیث ۴۵۳۰، ۳۹۰/۱۰۔
 ۳۹۳؛ والسنن الكبرى للإمام النسائي، کتاب السیر، الرجل يكون له المال عند الشركين
 فيقول شيئاً يخرجه به ماله، رقم الحدیث ۸۵۹۲، ۳۷۱/۸۔ حافظ بوشی نے اس کے بارے میں
 لکھا ہے: ”احمد، ابویعلیٰ، بزار اور طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کے راویان الصحیح کے
 روایت کرنے والے ہیں۔“ (مجمع الزوائد ۱۵۰/۱)۔ شیخ البانی نے اس کو [صحیح] کہا ہے۔ (ملاحظہ
 ہو: صحیح موارد الظمان إلی زوائد ابن حبان ۱۴۷/۲)۔

● سلسلة الأحاديث الصحيحة ۷۸/۲

● فتح الباري ۱۵۹/۲

● شرح النووي ۱۵۸/۶

کے درمیان جھوٹ سے مراد صرف وہ ہے، جو کہ واجب الذمہ حق کو ساقط نہ کرے اور ناحق کچھ لینے کا سبب نہ بنے۔“ ●

شیخ البانی رقم طراز ہیں: ”میں کہتا ہوں: جائز جھوٹ میں سے یہ نہیں، کہ اس [بیوی] کے ساتھ کسی ایسی چیز کا وعدہ کرے، جس کو پورا کرنے کا اس کا ارادہ ہی نہ ہو۔ اور نہ ہی یہ مراد ہے، کہ اس کو خوش کرنے کی خاطر یہ کہے، کہ میں نے فلاں چیز تمہارے لیے اس قیمت سے خریدی ہے، جو کہ اصل قیمت سے زیادہ ہو، کیونکہ اگر کبھی اصل صورت حال کا انکشاف ہو جائے، تو پھر یہی بات شوہر کے بارے میں بدگمانی کا سبب جاتی ہے۔ اور یہ بات خرابی کی ہے، اصلاح کی نہیں۔“ ●

۵: اضطراری حالت میں جھوٹ کے جواز پر اتفاق:

اضطراری حالت میں جھوٹ بولنے کے جائز ہونے کے بارے میں اہل علم نے اجماع امت نقل کیا ہے۔ مثال کے طور پر قاضی عیاض نے تحریر کیا ہے: ”اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں، کہ اگر کسی شخص کے ہاں ایک آدمی چھپا ہوا ہو اور کوئی ظالم اس کو [ناحق] قتل کرنا چاہے، تو اس شخص پر واجب ہے، کہ وہ اس کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے لاعلمی ظاہر کرے۔“ ●

حافظ ابن حجر کہتے ہیں: ”اضطراری حالت میں جھوٹ بولنے کے جواز پر اتفاق ہے، جیسے کہ ایک ظالم کسی آدمی کو [ناحق] قتل کرنا چاہے اور وہ شخص کسی دوسرے آدمی کے پاس چھپا ہوا ہو، تو اس کے لیے اس کے اپنے پاس ہونے کی نفی کرنا درست ہے، اور اس پر قسم [بھی] کھائے، تو اس کو گناہ نہ ہوگا۔“ واللہ تعالیٰ اعلم۔ ●

● فتح الباری ۳۰۰/۱۵.

● سلسلۃ الأحادیث الصحیحۃ، المحلّد الأول، شرح حدیث رقم ۴۹۸ کے ضمن میں شیخ البانی کا کلام۔

● فتح الباری ۳۰۰/۱۵.

● منقول از: شرح النووی ۱۵۸/۱۶.



حرف آخر

رب علیم و حکیم کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، کہ انہوں نے اس اہم اور سنگین موضوع کے بارے میں میرے ایسے کمزور بندے کی اس معمولی کوشش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ **فَلَهُ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ كَمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ.**

اب اللہ تعالیٰ ہی سے عاجزانہ التجا ہے، کہ اس کو میرے اور قارئین کے لیے خیر و برکت اور اپنے تقرب کا ذریعہ بنا دیں۔ **إنه سمیع مجیب.**

نتائج بحث:

اس کتاب میں توفیق الہی سے متعدد باتیں اجاگر ہوئیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

اول: جھوٹ کی سنگینی:

- ۱: جھوٹ زمانہ جاہلیت میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔
- ۲: جھوٹ ایمان کے منافی، شرک کا ساتھی اور منافقوں کی خصلتوں میں سے ہے۔
- ۳: جھوٹ باعث قلق و اضطراب اور ہدایت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔
- ۴: جھوٹ اور اس کے مطابق عمل کرنا روزے کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔
- ۵: جھوٹ تاجروں کو فاجر بنا دیتا ہے، یہ اپنے بولنے والوں کو گناہوں کی طرف اور پھر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔

۶: جھوٹ شدید اور طویل عذاب کا سبب بنتا ہے۔

۷: جھوٹ نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ کی نگاہوں میں بدترین عادت تھی۔

۸: جھوٹ میں خیر نہیں۔

دوئم: جھوٹ چھوڑنے کا عظیم صلہ:

جھوٹ چھوڑنے والا دنیا و آخرت میں عظیم برکتوں اور بیش قیمت فوائد سے نواز جاتا ہے، جب کہ جھوٹ بولنے والا دونوں جہانوں میں شدید سزاؤں کا مستحق قرار پاتا ہے۔ غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے والے جھوٹے منافقوں اور تین سچے مسلمان صحابہ کے واقعہ اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

سوئم: جھوٹ کی اقسام:

جھوٹ کی متعدد اقسام ہیں، جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

۱: جھوٹ کی بدترین قسم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے اور اس کی متعدد شکلیں ہیں انہی میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱: اللہ تعالیٰ پر کسی کو اپنا بیٹا بنانے کا افتراء۔

ب: خود ستائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی نسبت۔

ج: اپنی جانب سے حلت و حرمت کا حکم لگا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا۔

۲: دوسرے درجے کا سنگین ترین جھوٹ نبی کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ بعض

نادان لوگوں نے ترغیب و ترہیب کی خاطر آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنے کے جواز کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ان کی پیش کردہ دلیلیں بے وزار

اور کھوکھلی ہیں۔ صرف آنحضرت ﷺ پر جھوٹ باندھنا ہی حرام نہیں، بلکہ

جھوٹی حدیث نقل کرنا بھی حرام ہے۔ البتہ ان کے جھوٹے ہونے کے اظہار

خاطر انہیں بیان کرنا درست ہے۔ بعض حضرات صحابہ نبی کریم ﷺ پر جھوٹ کے خدشے کی بنا پر بہت کم احادیث روایت کرتے تھے۔

۳: جھوٹ کی اقسام میں سے جھوٹا خواب بیان کرنا اور اپنے باپ کی بجائے کسی اور شخص کی طرف اپنی نسبت کرنا بھی ہے۔ کسی اور شخص کی طرف نسبت کرنے کی شکلوں میں سے خود کو اپنے سوا کسی اور قبیلے کی طرف منسوب کرنا اور کسی لے پالک کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے۔

۴: جھوٹ کی اقسام میں سے ایک غیر موجود چیز یا صلاحیت کے وجود کا اظہار یا دعویٰ کرنا ہے۔ زمانہ حاضر میں اس کی موجود شکلوں میں سے چند ایک درج ذیل ہیں:

ا: ملازمت کے حصول کے لیے غیر موجود صلاحیت اور مہارت کا دعویٰ کرنا۔

ب: نیم خواندہ لوگوں کا اہل علم یا مخصوص پیشے سے منسلک لوگوں کا لباس پہننا۔

ج: بعض اہل علم کا اپنی حیثیت سے بڑے القاب کو اپنے لیے بالواسطہ یا بلاواسطہ رواج دینا۔

د: بعض اعلیٰ عہدیداروں کا اپنے ماتحت لوگوں کے علمی و تحقیقی کاموں کو اپنی طرف منسوب کروانا۔

۵: جھوٹ کی اقسام میں سے ایک تہمت لگانا ہے۔ اور اس کی شکلوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

ا: بے قصور کو مورد الزام ٹھہرانا۔

ب: پاک دامن مردوں اور عورتوں پر بے حیائی کا الزام لگانا۔

ج: اپنا قصور بے گناہ کے سر تھوپ دینا۔

۶: جھوٹ کی اقسام میں سے ایک جھوٹی گواہی دینا اور حصول مال کے لیے جھوٹی قسم

کھانا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے کی شکلوں میں سے دو درج ذیل ہیں:

۱: مسلمانوں کا مال ناجائز ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔

ب: سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔

علاوہ ازیں سودے بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کی صورتوں میں سے تین درج ذیل ہیں:

۱: قیمت خرید حقیقت سے زیادہ بتلانے کے لیے۔

ب: سودے کی بازار میں لگائی گئی قیمت سے زیادہ قیمت بتلانے کی غرض سے۔

ج: مخصوص قیمت پر سودا فروخت نہ کرنے کی خاطر۔

۷: جھوٹ کی اقسام میں سے تجارت میں جھوٹ اور مزاحیہ طور پر جھوٹ بولنا بھی

شامل ہیں۔ البتہ سچ گوئی کے ساتھ مزاح کی اجازت ہے۔ اس قسم کے مزاح

کے متعدد شواہد آنحضرت ﷺ کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔

۸: جھوٹ کی اقسام میں لوگوں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولنا، ازراہ تکلف جھوٹ

بولنا، مخاطب کو حقیر سمجھتے ہوئے جھوٹ بولنا اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان کرنا بھی

شامل ہیں۔

چہارم: جھوٹ بولنے کی اجازت کے مواقع:

۱: درج ذیل حالتوں میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے:

۱: جنگ میں۔

ب: لوگوں کے درمیان اصلاح کرواتے وقت۔

ج: میاں بیوی کے درمیان۔

۲: علمائے امت نے مذکورہ بالا حالتوں میں بولے جانے والے جھوٹ کی حقیقت کو

واضح کیا ہے۔

۳: ان حالات میں جھوٹ کا استعمال صرف اسی وقت کیا جاتا ہے، جب کہ اس کے سوا چارہ کار نہ ہو۔

۴: بعض علماء کے نزدیک ان حالات میں بولے جانے والے جھوٹ سے مراد تو یہ اور تعریف ہے، صریحاً جھوٹ مراد نہیں۔ بعض علماء کے نزدیک جب جھوٹ کے سوا کوئی اور چارہ کار نہ ہو، تو پھر صریحاً جھوٹ کی بھی اجازت ہے۔ اور شاید یہ دوسری رائے ہی راجح ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۵: میاں بیوی کے درمیان جھوٹ کی اجازت کا مقصد ایک دوسرے کو دھوکا دینا اور ایک دوسرے کی حق تلفی کرنا نہیں۔

۶: اضطراری حالت میں جھوٹ بولنے کے جواز پر امت کا اتفاق ہے۔

اپیل:

اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں ادب و احترام سے:
۱: اہل علم و فضل، طلبہ اور تربیت کرنے والے حضرات و خواتین سے التماس کرتا ہوں، کہ وہ جھوٹ کے بارے میں کتاب و سنت میں بیان کردہ باتوں کو خود سمجھیں اور دوسروں کو سمجھائیں۔

۲: دعوت و تربیت کے عظیم کام میں مشغول حضرات سے درخواست کرتا ہوں، کہ وہ اپنی دعوت و تربیت میں اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ پر جھوٹ باندھنے سے مکمل طور پر اجتناب کریں۔ جھوٹ میں کچھ خیر نہیں۔ وعظ و نصیحت کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ثابت شدہ باتیں بہت کافی ہیں۔

۳: تاجر حضرات سے گزارش کرتا ہوں، کہ وہ لین دین میں کلی طور پر ہر ظاہری د باطنی، براہ راست اور بالواسطہ جھوٹ سے دور ہو جائیں۔ ہم سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ

کے ساتھ ہے اور ان سے کوئی چیز مخفی نہیں۔ اور ہم سب اس بات کو اچھی طرح اپنے دلوں میں راسخ کر لیں، کہ جھوٹ سے حاصل شدہ مال میں کچھ خیر نہیں۔
 ۴: اپنے آپ کو اور روئے زمین پر موجود تمام مسلمان مردوں اور عورتوں، بلکہ تمام انسانیت کو نصیحت کرتا ہوں، کہ وہ ہر قسم کے جھوٹ کو ترک کر دیں، کیونکہ اسی میں اطمینان، راحت، سکون اور دنیا و آخرت کی سعادت ہے۔
 رب حی و قیوم سے انتہائی عاجزانہ التجا ہے، کہ وہ مجھ کمزور، میرے اہل و عیال، میرے بہن بھائیوں، ان کے اہل و عیال، تمام مسلمانوں اور ان کے اہل و عیال کو ہر قسم کے جھوٹ سے زندگی کے آخری لمحات تک محفوظ رکھیں اور ہمارا انجام سچے لوگوں کے ساتھ فرمادیں۔ إِنَّهُ قَرِيبٌ مَّجِيبٌ۔

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلٰى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَاَتْبَاعِهِ
 وَبَارَكَ وَسَلَّمَ. وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.



فهرس المراجع والمصادر

- ١- "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان" للأمير علاء الدين الفارسي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ، بتحقيق الشيخ شعيب الارناؤوط.
- ٢- "أحكام القرآن" للإمام أبي بكر ابن العربي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة، وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ علي محمد البجاوي.
- ٣- "إحياء علوم الدين" للعلامة الغزالي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٢هـ، بتخريج الحافظ العراقي.
- ٤- "الأدب المفرد" للإمام البخاري، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ، بترتيب وتقديم أ. كمال يوسف الحوت.
- ٥- "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن" للعلامة محمد الأمين الشنقيطي، ط: على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٣هـ.
- ٦- "إعلام الموقعين عن رب العالمين" للإمام ابن القيم، بتحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد، ط: دار الفكر، بيروت ١٣٩٧هـ.
- ٧- "الإكليل في استنباط التنزيل" للإمام السيوطي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، بتحقيق الأستاذ سيف الدين عبدالقادر كاتب.
- ٨- "إكمال إكمال المعلم" للعلامة الأبي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٥هـ، بتصحيح الأستاذ محمد سالم هاشم.
- ٩- "إنجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه" للشيخ محمد علي جانباز، ط: المكتبة القدوسية لاهور، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ.
- ١٠- "أيسر التفاسير" للشيخ أبي بكر الجزائري، بدون اسم الناشر، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ.

- ۱۱۔ ”بہجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها و ما عليها“ (شرح مختصر صحيح البخاري) المسمى بـ (جمع النهاية في بدء الخير والنهاية) للإمام ابن أبي جمرة الأندلسي ، ط: دار الجيل بيروت، الطبعة الثالثة ۱۹۷۹م.
- ۱۲۔ ”تحذير الخواص من أكاذيب القصاص“ للإمام السيوطي، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الثانية ۱۴۰۴ھ، بتحقيق د. محمد بن لطفي الصباغ.
- ۱۳۔ ”تحفة الأحوذی“ شرح جامع الترمذی للشيخ محمد عبدالرحمن المبارکفوري ، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۰ھ.
- ۱۴۔ ”تذكرة الأريب في تفسير الغريب“ للحافظ ابن الجوزي، ط: مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۰۷ھ، بتحقيق د. علي حسين البواب.
- ۱۵۔ ”الترغيب والترهيب“ للحافظ المنذري، ط: دار الفكر بيروت، سنة الطبعة ۱۴۰۱ھ، بتحقيق الشيخ مصطفى محمد عمارة.
- ۱۶۔ ”تفسير البيضاوي“ المسمى بـ ”أنوار التنزيل وأسرار التأويل“ للقاضي ناصر الدين البيضاوي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ.
- ۱۷۔ ”تفسير التحرير والتنوير“ للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، ط: الدار التونسية للنشر تونس، بدون الطبعة، سنة الطبع ۱۳۹۹ھ.
- ۱۸۔ ”تفسير السعدي“ المسمى بـ ”تيسير القرآن في تفسير كلام المنان“ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي، بتحقيق الشيخ عبدالرحمن بن معلّ اللويحق، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۲۱ھ.
- ۱۹۔ ”تفسير أبي السعود“ المسمى بـ ”إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم“ للقاضي أبي السعود، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ۲۰۔ ”تفسير القاسمي“ المسمى بـ ”محاسن التأويل“ للعلامة محمد جمال الدين القاسمي، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ۱۳۹۸ھ، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبدالباقي.

- ٢١- "تفسير القرطبي" المسمى بـ "الجامع لأحكام القرآن" للعلامة القرطبي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٢٢- "التفسير الكبير" المسمى: بـ "مفاتيح الغيب" للعلامة فخر الدين الرازي، ط: دار الكتب العلمية طهران، الطبعة الثالثة، بدون سنة الطبع.
- ٢٣- "تفسير ابن كثير" المسمى بـ "تفسير القرآن العظيم" للحافظ ابن كثير، ط: دار الفيحاء دمشق و دار السلام الرياض، الطبعة الأولى ١٤١٣ هـ، بتقديم الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط. www.KitaboSunnat.com
- ٢٤- "تفسير المنار" للسيد محمد رشيد رضا، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع.
- ٢٥- "التلخيص" للحافظ الذهبي، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبعة.
- ٢٦- "جامع الترمذي" (المطبوع مع شرحه تحفة الأحوذى)، للإمام أبي عيسى الترمذي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- ٢٧- "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني" للعلامة محمود الألوسي، ط: دار إحياء التراث العربي بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- ٢٨- "الزهد" للإمام هناد بن السري التميمي، توزيع: على نفقة أمير دولة قطر، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠٦ هـ، بتحقيق الشيخ محمد أبي الليث الخير آبادي.
- ٢٩- "سلسلة الأحاديث الصحيحة" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط: مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى ١٤١٦ هـ.
- ٣٠- "سنن الدارمي" للإمام أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي، ط: حديث اكادمي فيصل آباد، باكستان، بدون الطبعة وسنة الطبع ١٤٠٤ هـ.
- ٣١- "سنن أبي داود" (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان بن الأشعث السجستاني، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠ هـ.
- ٣٢- "السنن الكبرى" للإمام البيهقي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ، بتحقيق الشيخ محمد عبدالقادر عطا.

- ۳۳- ”سنن النسائي“ (المطبوع مع شرح السيوطي و حاشية السندي) للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، ط: دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ۱۳۴۸ھ.
- ۳۴- ”شرح السنة“ للإمام البغوي، ط: المكتب الإسلامي ، الطبعة الأولى ۱۳۹۰ھ، بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش.
- ۳۵- ”شرح صحيح البخاري لابن بطلال“ ط: مكتبة الرشد الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۲۰ھ ، بتحقيق الأستاذ أبي تميم ياسر بن إبراهيم.
- ۳۶- ”شرح الطيبي على مشكاة المصابيح“ للإمام شرف الدين الطيبي ، ط: مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ، بتحقيق د. عبد الحميد هنداوي.
- ۳۷- ”صحيح الأدب المفرد“ للإمام البخاري بقلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، نشر: دار الصديق الجبيل ، الطبعة الأولى ۱۴۲۱ھ.
- ۳۸- ”صحيح البخاري“ (المطبوع مع فتح الباري) للإمام محمد بن اسماعيل البخاري، نشر وتوزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية ، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ۳۹- ”صحيح الترغيب والترهيب“ تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الثالثة ۱۴۰۹ھ.
- ۴۰- ”صحيح سنن الترمذي“ اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، نشر: مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۰۹ھ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ۴۱- ”صحيح سنن أبي داود“ صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط: مكتب التربية العربية لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۰۱ھ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ۴۲- ”صحيح سنن ابن ماجه“ اختيار الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ، ط:

- مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ، بإشراف الشيخ زهير الشاويش.
- ٤٣- "صحيح مسلم" للإمام مسلم بن الحجاج القشيري، بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤١٠هـ.
- ٤٤- "الصمت وحفظ اللسان" للإمام ابن أبي الدنيا، ط: دار الاعتصام القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، بتحقيق د. محمد أحمد عاشور.
- ٤٥- "عمدة القاري" للعلامة بدر الدين العيني، ط: دار الفكر بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٤٦- "عون المعبود شرح سنن أبي داود" للعلامة أبي الطيب العظيم آبادي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ.
- ٤٧- "غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام" للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ.
- ٤٨- "غريب الحديث" للحافظ ابن الجوزي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، بتحقيق د. عبدالمعطي أمين قلعجي.
- ٤٩- "غريب القرآن وتفسيره" للإمام عبدالله بن يحيى الزبيدي، ط: عالم الكتب بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ، بتحقيق أ. محمد سليم الحاج.
- ٥٠- "الفائق في غريب الحديث" للعلامة الزمخشري، ط: دار المعرفة بيروت، الطبعة الثانية، بدون سنة الطبع، بتحقيق الأستاذين محمد أبي الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي.
- ٥١- "فتح الباري" للحافظ ابن حجر، نشر و توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بدون الطبعة وسنة الطبع.
- ٥٢- "فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير" للعلامة الشوكاني، ط: المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع،

بتحقیق الأستاذ سعید محمد اللحام.

۵۳- "فتح المغیث شرح ألفیة الحدیث" للحافظ محمد بن عبدالرحمن

السخاوي، ط: دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۳ھ.

۵۴- "فیض القدير شرح الجامع الصغير" للعلامة عبدالرؤف المناوي، ط: دار

المعرفة بيروت، الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ.

۵۵- "كتاب الزهد" للإمام وكيع بن الجراح، ط: مكتبة الدار بالمدينة المنورة،

الطبعة الأولى ۱۴۰۴ھ، بتحقیق د. عبدالرحمن الفريوائي.

۵۶- "الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل من وجوه التنزيل" للعلامة

أبي القاسم الزمخشري، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.

۵۷- "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد" للحافظ نور الدين الهيثمي، ط: دار الكتاب

العربي بيروت، الطبعة الثالثة ۱۴۰۲ھ.

۵۸- "مختصر الشمائل المحمدية" للإمام الترمذي، اختصره وحققه الشيخ

محمد ناصر الدين الألباني، ط: المكتبة الإسلامية عمان و مكتبة المعارف

الرياض، الطبعة الثانية ۱۴۰۶ھ.

۵۹- "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" للعلامة الملا علي القاري، ط:

المكتبة التجارية مكة المكرمة، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقیق الأستاذ

صدقي محمد جميل عطار.

۶۰- "المستدرک علی الصحیحین" للإمام أبي عبدالله الحاكم، ط: دار

الكتاب العربي بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع.

۶۱- "المسند" للإمام احمد بن حنبل، ط: المكتب الإسلامي، بدون الطبعة

وسنة الطبع، [أو: ط: دار المعارف مصر، الطبعة الثالثة ۱۳۶۸ھ] [أو: ط:

مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ]

۶۲- "مسند أبي داود الطيالسي" ط: دار هجر، الطبعة الأولى ۱۴۱۹ھ، بتحقیق

د. محمد بن عبدالمحسن التركي.

- ٦٣- "مسند الشهاب" للقاضي أبي عبدالله القضاعي، ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ١٤٠٧هـ، بتحقيق الشيخ حمدي عبدالحميد السلفي.
- ٦٤- "مسند أبي يعلى الموصلي" للإمام أحمد بن علي بن المثنى التميمي، ط: دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ، بدراسة وتقديم الأستاذ حسين سليم أسد.
- ٦٥- "مصباح الزجاجاة في زوائد ابن ماجه" للحافظ أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري، ط: دار الجنان بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ، بدراسة وتقديم الأستاذ كمال يوسف الحوت.
- ٦٦- "المصنف" للحافظ ابن أبي شيبه، ط: الدار السلفية بومباي الهند، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ، بتحقيق الشيخ مختار أحمد الندوي.
- ٦٧- "المصنف" للإمام عبدالرزاق الصنعاني، ط: المجلس العلمي بجنوب افريقيا، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ، بتحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي.
- ٦٨- "المفردات في غريب القرآن" للعلامة الراغب الأصفهاني، ط: دار المعرفة بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذ محمد سيد كيلاني.
- ٦٩- "الموضوعات" للحافظ ابن الجوزي، الناشر: المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ١٣٨٦هـ، بتحقيق الشيخ عبدالرحمن محمد عثمان.
- ٧٠- "الموضوعات الكبرى" للعلامة الملا علي القاري، الناشر: قديمي كتب خانه آرام باغ كراتشي، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق أ. أبي هاجر محمد زغلول.
- ٧١- "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام ابن الأثير، الناشر: المكتبة الإسلامية بيروت، بدون الطبعة وسنة الطبع، بتحقيق الأستاذين طاهر أحمد الزاوي ود. محمود محمد الطناحي.
- ٧٢- "نيل المرام من تفسير آيات الأحكام" للشيخ محمد صديق حسن خان، ط: دار الرائد العربي بيروت، بدون الطبعة، سنة الطبع ١٤٠١هـ.

- ۷۳۔ ”ہامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان“ للشيخ شعيب الأرنؤوط
ط: مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۰۸ھ.
- ۷۴۔ ”ہامش تذكرة الأريب في تفسير الغريب“ للدكتور على البواب، ط: مكتبة
المعارف الرياض، الطبعة الأولى ۱۴۰۷ھ.
- ۷۵۔ ”ہامش الزهد“ للشيخ محمد أبي الليث الخیر آبادي، توزيع: علی نفقة أمير
دولة قطر، بدون الطبعة، سنة الطبع ۱۴۰۶ھ.
- ۷۶۔ ”ہامش الصمت“ للدكتور محمد أحمد عاشور، ط: دار الاعتصام القاهرة،
الطبعة الأولى ۱۴۰۶ھ.
- ۷۷۔ ”ہامش كتاب الزهد“ للدكتور عبدالرحمن الفيرواني، ط: مكتبة الدار
بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى ۱۴۰۴ھ.
- ۷۸۔ ”ہامش مختصر الشمائل المحمدية“ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني،
ط: المكتبة الإسلامية عمان و مكتبة المعارف الرياض، الطبعة الثانية ۱۴۰۶ھ.
- ۷۹۔ ”ہامش المسند“ للشيخ أحمد محمد شاكر، ط: دار المعارف مصر،
الطبعة الثالثة ۱۳۶۸ھ.
- ۸۰۔ ”ہامش المسند“ للشيخ شعيب الأرنؤوط و رفقاءه، ط: مؤسسة الرسالة،
بيروت، الطبعة الأولى ۱۴۱۷ھ.
- ۸۱۔ ”ہامش مسند أبي داود الطيالسي“ للدكتور محمد بن عبدالمحسن التركي،
ط: دار هجر، الطبعة الأولى، سنة الطبع ۱۴۱۹ھ.
- ۸۲۔ ”ہامش مسند الشهاب“ للشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي، ط: مؤسسة
الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ۱۴۰۷ھ.
- ۸۳۔ ”ہامش مسند أبي يعلى الموصلي“ للأستاذ حسين سليم أسد، ط: دار
المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى ۱۴۰۴ھ.



مؤلف کی عربی موافقات

- ۱- التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي
- ۲- التدابير الواقية من الربا في الإسلام
- ۳- حب النبي ﷺ وعلاماته
- ۴- رسائل حب النبي ﷺ
- ۵- الحسبة: تعريفها ومشروعيتها ووجوبها
- ۶- الحسبة في العصر النبوي وعصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم
- ۷- شبهات حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
- ۸- الحرص على هداية الناس (في ضوء النصوص وسير الصالحين)
- ۹- من صفات الداعية: اللين والرفق
- ۱۰- مسؤولية النساء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
- ۱۱- مفاتيح الرزق (في ضوء الكتاب والسنة)
- ۱۲- فضل آية الكرسي وتفسيرها
- ۱۳- من صفات الداعية: مراعاة أحوال المخاطبين (في ضوء الكتاب والسنة)
- ۱۴- أهمية صلاة الجماعة (في ضوء النصوص و سير الصالحين)
- ۱۵- حكم الإنكار في مسائل الخلاف
- ۱۶- قصة بعث أبي بكر جيش أسامة رضي الله عنهما (دراسة دعوية)
- ۱۷- الاحتساب على الوالدين: مشروعيته، ودرجاته، وآدابه
- ۱۸- الاحتساب على الأطفال
- ۱۹- السلوك وأثره في الدعوة إلى الله تعالى
- ۲۰- فضل الدعوة إلى الله تعالى
- ۲۱- من تصلي عليهم الملائكة ومن تلعنهم
- ۲۲- إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبا
- ۲۳- مختصر حب النبي ﷺ وعلاماته
- ۲۴- النبي الكريم صلى الله عليه وسلم معلما
- ۲۵- ركائز الدعوة إلى الله تعالى
- ۲۶- شناعة الكذب وأنواعه
- ۲۷- الأذكار النافعة
- ۲۸- التقوى

مصنف کی اردو تالیفات

- ۱۔ نبی کریم ﷺ بحیثیت معلم
- ۲۔ اذکار نافحہ
- ۳۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں خواتین کی ذمہ داری
- ۴۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق شہادت کی حقیقت
- ۵۔ والدین کا احتساب
- ۶۔ بچوں کا احتساب
- ۷۔ فضائل دعوت
- ۸۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہم کی روانگی
- ۹۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد
- ۱۰۔ مسائل قربانی
- ۱۱۔ مسائل عیدین
- ۱۲۔ رزق کی کنجیاں
- ۱۳۔ نبی کریم ﷺ سے محبت اور اس کی علامتیں
- ۱۴۔ نبی کریم ﷺ سے محبت کے اسباب
- ۱۵۔ فرشتوں کا درود پانے والے اور لعنت پانے والے
- ۱۶۔ تقویٰ۔ اہمیت، برکات، اسباب

نبی کریم ﷺ سے محبت

اور

اس کی علامتیں

اس کتاب میں توفیق الہی سے درج ذیل سوالات کے جوابات پیش کیے گئے ہیں:

- (۱) نبی کریم ﷺ سے محبت کا حکم کیا ہے؟
- (۲) آنحضرت ﷺ سے محبت کے دنیا و آخرت میں کیا فوائد و ثمرات ہیں؟
- (۳) آنحضرت ﷺ کی محبت کی علامات کیا ہیں؟
- (۴) حضرات صحابہ ان علامتوں کے اعتبار سے کیسے تھے؟
- (۵) ہم ان نشانیوں کے اعتبار سے کیسے ہیں؟



نبی کریم ﷺ کی محبت کے اسباب

کتاب ہذا میں توفیق الہی سے نبی کریم ﷺ کی محبت کے درج ذیل سات اسباب قرآن و سنت اور اقوال علمائے اُمت کی روشنی میں پیش کیے جا رہے ہیں:

- (۱) نبی کریم ﷺ کی محبت کی فرضیت کو نہ بھولنا
- (۲) آپ ﷺ کی محبت کے ثمرات کو ہمیشہ یاد رکھنا
- (۳) آپ ﷺ کے احسانات کو فراموش نہ کرنا
- (۴) شانِ مصطفیٰ ﷺ کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھنا
- (۵) آپ ﷺ کے اخلاق عالیہ کو کبھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دینا
- (۶) کثرت سے آپ ﷺ کا ذکر کرنا اور آپ پر درود پڑھنا
- (۷) آنحضرت ﷺ کے احوال کو پیش نظر رکھنا



رزق کی کنجیاں

قرآن و سنت کی روشنی میں

اس کتاب میں توفیق الہی سے درج ذیل سوالات کے جوابات ہیں:

(۱) کیا استغفار و توبہ، تقویٰ، توکل اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہونا

رزق کی فراوانی کے اسباب میں سے ہیں؟

(۲) استغفار و توبہ، تقویٰ و توکل اور عبادت کے لیے فارغ ہونے سے کیا مراد

ہے؟

(۳) کیا توکل اور عبادت کے لیے فارغ ہونے سے مراد حصول رزق کے لیے

کوشش کا ترک کر دینا ہے؟

PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

(۴) کیا صلہ رحمی رزق کی کشادگی کا سبب ہے؟

(۵) صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے؟ نافرمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت کیا ہو

گی؟

(۶) انفاق فی سبیل اللہ اور شرعی علوم کے حصول کی غرض سے وقف ہونے

والوں پر خرچ کرنے اور کمزوروں کے ساتھ احسان کرنے کا حصول رزق

کے ساتھ کیا تعلق ہے؟

(۷) کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا حصول رزق کے اسباب میں سے ہے؟



صدیق اکبر (رضی اللہ عنہ) کا عظیم کارنامہ

لشکرِ اُسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی

(دروس اور عبرتیں)

اس کتاب میں مذکورہ بالا واقعہ کو اختصار سے تحریر کرنے کے بعد اس سے حاصل ہونے والے سولہ (۱۶) دروس کو بیان کیا گیا ہے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں:

✽ حالات میں تغیر و تبدل ہوتے رہنا

✽ مشکلات اہل ایمان کے لیے خدمت دین میں رکاوٹ نہیں

✽ دعوت دین کسی ایک شخص کے ساتھ وابستہ نہیں

✽ اتباع نبی کریم ﷺ اور اس میں جلدی کرنے کی فرضیت

✽ امت کی نصرت و تکریم کا اتباع نبی ﷺ سے مرتبط ہونا

✽ نبی کریم ﷺ کے سوا کوئی معصوم نہیں

✽ تنازعات کے تصفیہ کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع

✽ احتساب سے کوئی مستثنیٰ نہیں

✽ خدمت دین میں نوجوانوں کا حصہ

✽ جہادِ اسلامی کی حقیقت

✽ حاصل شدہ دروس کی تائید میں کتاب و سنت کے دلائل

✽ بیان کردہ دروس کی تشریح میں دیگر صحابہ کرام کے اعمال اور واقعات کا اشارہ ذکر۔



بچوں کا احتساب

مولائے کریم کی توفیق سے اس کتاب میں درج ذیل چار سوالات

کے جوابات ہیں:

(۱) کیا بچوں کو نیکی کا حکم دینا شرعاً ثابت ہے؟ اس بارے میں

ہمارے نبی کریم ﷺ اور حضرات صحابہ کا طرزِ عمل کیا تھا؟

(۲) کیا بچوں کو برے کاموں سے روکنا ثابت ہے؟ ہمارے نبی

محترم ﷺ اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس بارے میں

طریقہ کار کیا تھا؟
PAKISTAN VIRTUAL LIBRARY
www.pdfbooksfree.pk

(۳) بچوں کے احتساب کے دوران کون سے درجات، اسالیب

اور وسائل استعمال کیے جائیں۔

(۴) بچوں کا احتساب کون کرے؟



مولف کے قلم سے

تقویٰ

اہمیت، برکات، اسباب

اس کتاب کے بنیادی موضوعات

- اس کتاب میں توفیق الہی سے مندرجہ ذیل موضوعات کے بارے میں قرآن و سنت اور علماء امت کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے
- ★ تقویٰ کے لغوی اور شرعی معنی کے متعلق ⑩ علمائے امت کے ارشادات
 - ★ قرآن و سنت کی روشنی میں ⑭ پہلوؤں سے تقویٰ کی اہمیت
 - ★ کتاب و سنت میں بیان کردہ تقویٰ کی ⑲ برکات
 - ★ قرآن و سنت اور اقوال صحابہ سے معلوم ہونے والے

تقویٰ کے ⑮ اسباب

لَا تَكْفُرْ بِاللَّهِ عَمَّا كَفَرَ

۹۹۔۔۔ جے ماڈل ٹاؤن - لاہور

Courtesy of www.pdfbooksfree.pk


فہرست.....1.5.9.1.7.....



جھوٹ کی سائبانی

آرزو

اس کی اقسام



اس کتاب کے بنیادی موضوعات

اس کتاب میں توفیق الہی سے مندرجہ ذیل عناوین کے متعلق قرآن و سنت اور علماء امت کے فرمودات کی روشنی میں گفتگو کی گئی ہے

★ جھوٹ کی قباحت اور برائی 12 پہلوؤں سے

★ جھوٹ چھوڑنے کا عظیم الشان صلہ

★ جھوٹ کی 14 اقسام کا تفصیلی بیان

★ جھوٹ بولنے کی اجازت کی 4 حالتیں